

حضرت ابوسفیانؓ

اور

ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

تالیف

حضرت مولانا محمد نافع مدظلہ

معدی شریف ضلع جھنگ پنجاب

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

(سُورَةُ الْحَمْدِ رُكُوعِ أَوَّلِ)

یعنی "اور ہر ایک کو وعدہ دیا ہے اللہ نے اچھا"

حضرت ابوسفیان

اور
ان کی اہلیۃ

رسالہ ہذا میں حضرت ابوسفیان بن حرب اور ان کی اہلیۃ ہند
بنت عقبہ کے سوانح مختصر ذکر کی گئے ہیں اور ساتھ ہی بعض
شبہات کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے۔

تالیف

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ
محمدی شریف ضلع جھنگ (پنجاب)

کتاب مارکیٹ، غزنی سٹریٹ
اردو بازار، لاہور

دارالکتاب

ضابطہ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب :	حضرت ابوسفیان
مصنف :	حضرت مولانا محمد نافع دامت برکاتہم
ناشر :	دارالکتاب، کتاب مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
طابع :	زاہد بشیر
اشاعت :	اگست 2005ء
قیمت :	●

Rs 130



قانونی مشیر _____ باہتمام
مہر عطاء الرحمن، ایڈووکیٹ ہائی کورٹ، لاہور
حافظ محمد ندیم
فون: 7241866، 0300-4356144

فہرست

حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ

9	باسمہ تعالیٰ
11	پیش لفظ
16	رائے گرامی

سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ

عنوانات

20	تمہیدی امور
25	نام و نسب و رشتہ داری
27	سنی مورخین
28	شیعہ مورخین
29	حضرت ابو سفیان کی حضرت عباسؓ کے ساتھ ہم نشینی
32	اسلام لانا اور دخول دار کی فضیلت حاصل کرنا
32	حضرت عباس اور ابو سفیان کی ایک گفتگو
36	غزوات میں شرکت - مجاہدانہ کارنامے اور پر خلوص قربانیاں
36	غزوہ حنین
37	ابو سفیان پر اعتماد نبویؐ

- 38 غزوہ طائف میں ایک چشم کی قربانی
- 39 حضرت ابو سفیانؓ کا بت شکنی کے لیے انتخاب
- 40 قضائے دین کے لیے حضرت ابو سفیانؓ کا تعین
- 41 تقسیم مال میں حضرت ابو سفیانؓ پر اعتماد نبویؐ
- 41 ہدایا میں تبادلہ
- 42 صلح کے معاہدہ میں حضرت ابو سفیانؓ کی شہادت
- 42 نجران کے صدقات پر حضرت ابو سفیانؓ کا عامل بنایا جانا
- 43 حضرت ابو سفیانؓ کا ایک مرتد کو قتل کرنا
- 45 جنگ یرموک میں مجاہدانہ مساعی
- 46 حضرت ابو سفیانؓ کا بڑا مخلصانہ مشورہ
- 47 منصب ”القاص“ کا تعین
- 48 حضرت ابو سفیانؓ کے ایمان افروز خطبے
- 51 پیدان جنگ میں اپنے بیٹے کو وصایا
- 51 یرموک میں چشم دیکر کی قربانی
- 52 حضرت ابو سفیانؓ کا احترام اور ان کے حسن اسلام کی شہادت
- 54 ایک قاعدہ
- 54 حضرت ابو سفیانؓ سے روایت حدیث
- 55 حضرت ابو سفیانؓ کے آخری اوقات
- 56 شبہات از بعض روایات (طالما حدیث الاسلام والہدی الخ)
- 56 پھر ان کا زوالہ (روایات اور ایٹا)
- 57 روایت بحث
- 58 تنبیہ
- 59 قواعد و ضوابط
- 61 طعن کنندہ کے لیے تادیبی کارروائی
- 62 دیگر طریقہ

63	درائتہ بحث
65	قابل غور امر
65	بعض مشتبہ عبارات
66	الجواب
68	ازواج و اولاد ابی سفیانؓ

تذکرہ حضرت ہند بنت عتبہ (الہیہ ابی سفیانؓ)

71	نسب تشریحات اور قبیلہ قریش میں ان کا مقام
72	قبول اسلام اور پھر اس پر استقامت
73	بعد از قبول اسلام ہمت شکنی کا عجیب واقعہ
74	تشریف بیعت اور کلمہ ”مرحبا“ کا اعزاز
75	فائدہ
76	موقع ہذا کی گفتگو اور اظہار مودت
77	واقعہ بیعت النساء اور ہند بنت عتبہ کی معروضات
81	ضروری تہیہ
82	جنگ یرموک میں شرکت
	عورتوں کے مجاہدانہ کارنامے اور ہند کا قول
83	روایت حدیث
84	مدینہ طیبہ میں وفات
84	چند گزارشات

حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما


88	نام و نسب
89	قبول اسلام اور غزوہ خنین میں شرکت

90	منصب کتابت
91	منصب امارت
92	اعتماد نبوی ﷺ
93	روایت حدیث کا شرف
94	امیر جمیش اور صدیقی و صایا
95	دیگر صدیقی و صایا
97	حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف یزید بن ابی سفیان کا ایک مکتوب
98	مکتوب ہذا کی اصل عبارت
99	امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف سے مکتوب کا جواب
100	جو ابی مکتوب کی اصل عبارت
101	جنگ یرموک میں جناب ابو سفیانؓ کی ہدایات
102	ایک اہم معرکہ میں فتح
103	فتح مدینہ و مشق
104	فتوحات سوا اعلیٰ و مشق
105	تین صحابہ کرام کا طلب کیا جانا
106	ایک مراسلہ فاروقیؓ
108	شرب خمر کا واقعہ
110	مقام سرخ میں ملاقات
112	وفات
115	حاصل کلام

ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا

118	نام و نسب
119	عقد اول
119	عقد ثانی

121	بعض فضائل
122	احرام نبوی ﷺ
123	خیبر کی آمدنی سے حصہ
124	روایت حدیث کی فضیلت
124	اتباع سنت
125	دمشق روانگی
126	حقوق العباد کا لحاظ اور فکر آخرت
127	وفات
128	اختتامی کلمات
130	آخری.....مزارش



باسمہ تعالیٰ

و کلا وعد اللہ الحسنى (سورہ الحدید، رکوع اول)

یعنی اور ہر ایک کو وعدہ دیا ہے اللہ نے اچھا

جدید اصلاح و ترمیم شدہ

حضرت ابو سفیان اور

ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما


رسالہ ہذا میں حضرت ابو سفیان مہربین حربؓ اور ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہؓ کے سوانح مختصراً ذکر کیے گئے ہیں۔

نیز اشاعت ہذا میں سابقہ کتابچہ کی بہت اصلاح و ترمیم کر دی ہے اور مزید برآں اس کے آخر میں جناب ابو سفیانؓ کے بڑے فرزند یزید بن ابی سفیانؓ اور ان کی دختر ام المومنین ام حبیبہؓ ہر دو کے تذکرے اضافہ کر دیے گئے ہیں۔ اب کتابچہ ہذا چار (۴) حضرات کے سوانح پر مشتمل ہے اور اس میں ان کے دینی و ملی خدمات اور اسلامی کارناموں کو واضح کیا گیا ہے۔

تالیف (مولانا) محمد نافع عفا اللہ عنہ

بمقام وڈاک خانہ جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ

(پنجاب پاکستان)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از علامہ مولانا خالد محمود صاحب زید مجدہم

دیو ساج روڈ، سنت نگر، لاہور

الحمد لله وسلام على عباده الذين الصطفى

اما بعد!

بہار نبوت کے جو پھول آخر میں کھلے ان میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ ویسے تو بنو عبد مناف کی دونوں شاخیں بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے اقربا تھے لیکن ان دونوں خاندانوں میں جو مزید رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ وہ اور زیادہ عزیزداری کو شامل ہوتی چلی گئیں حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کے سر تھے۔ آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ان کی دوسری بیٹی حضرت میمونہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش دامن تھیں۔ ظاہر ہے کہ خاندان نبوت کے ان قریبی رشتوں کے باعث عصبیت کی وہ زہریلی ہوا، جس کا تذکرہ بعد کے مورخین نے کیا ہے، ان کے صحن زندگی میں خود

شاید ہی کبھی چلی ہو۔ نظریاتی اور واقعاتی اختلافات اپنی جگہ لیکن انہیں قبائلی عصیت کی چنگاریاں قرار دے کر اپنی تاریخ سے کھیلنا ایک سطحی رائے ہے۔ ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں مزید تحقیق جاری رہے اور عقیدت کے کناروں میں ٹھہرا چشمہ زلال کہیں گدلا نہ ہونے پائے۔

آنحضرت ﷺ جہاں الہی امانت کے امین اور آسمانی رشد و عصمت کے درنشین تھے، وہاں حیات انسانی کے نہایت بلند پایہ جوہر شناس اور انسانی قدروں کو پہچاننے اور ان کے اثرات کو بھانپنے میں نہایت عمیق النظر اور حساس تھے۔ صحابہ کی عظیم جماعت کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نگاہیں احد العرین (حضرت عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام) کی منتظر تھیں..... آخر کیوں؟ نظر رسالت کی باریک بینی کئے یا اسے رب العزت کی حکمت تکوینی سے تعبیر کیجئے کہ جذب محمدی نے ان جوہر گراں مایہ کو ایک ایک کر کے کھینچا اور جو لوگ اپنی جاہلیت میں بڑے سمجھے گئے تھے، ان کی انسانی قدروں نے جب اسلام کی جلاپائی تو اسلامی معاشرے نے بھی عزت کا تاج انہی کے سروں پر رکھا۔ آنحضرت ﷺ کی اس مردم شناسی کا اشارہ اس حدیث میں بھی ملتا ہے:

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقهوا (رواہ مسلم)

آنحضرت ﷺ کی عربوں کے قومی مزاج، ان کے روایتی مفاخر، ان کے جوہر مناصب اور عالمی عاقلی اثرات پر گہری نظر تھی۔ آپ کے مختلف نکاحوں نے

جس طرح مختلف خاندانوں کو ایک امت میں جوڑ دیا، تاریخ نفسیات اسے خراج تحسین ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم جرنیل اسلام میں اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ خوب جانتے تھے کہ کون کون سا فرد کس کس کام میں کس کس درجے تک کامیاب رہ سکتا ہے۔

اسی جو ہر شناسی کا اثر تھا کہ آپ نے تقسیم مناصب اور امت کو ذمہ داریاں سپرد کرنے میں قدیم الاسلام اور حدیث الاسلام کا فاصلہ کہیں دخیل نہ ہونے دیا۔ یہ تو بتایا کہ اللہ کے ہاں جو فضیلت پہلوں کو ہے، وہ پچھلوں کو نہیں۔ لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا (سورہ حدید، آیت ۱۰) لیکن نظم امور میں نظر ذاتی جو ہر اور فطری استعداد پر رکھی اور آپ نے اس کے مطابق سلطنت اسلامی کا ربط انتظامی کیا۔ جو کل اسلام لائے، انہیں آج بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپ دیں اور اس میں قطعاً اور عملاً کوئی بات قابل اعتراض نہ تھی۔

بیشتر اشراف مکہ بالکل آخری دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن حضور ان میں سے ایک ایک کو اس کی سوچ اور محنت کی استعداد سے پہچانتے تھے۔ قدیم الاسلام صحابہ بھی ان تمام تقاضوں کو جانتے تھے اور انہوں نے اس پہلو سے سیرت نبوی پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ سب سراپا اطاعت تھے۔ تقسیم غنائم میں بھی حضور کی ان پر فرداً فرداً نظر ہوتی تھی اور اس کے مطابق اس میں کمی بیشی فرماتے تھے۔ سوائے منافقین کے کوئی اس کو غیر مساوی تقسیم اور غیر عادلانہ نظام نہ کہہ سکتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے عہد خلافت میں یزید بن ابی سفیانؓ کو شام کے

ایک حصے کا والی بنایا اور حضرت عمرؓ کے دور میں یزید کی وفات ہوئی تو آپ (حضرت عمرؓ) نے ان (یزید بن ابی سفیان) کی جگہ ان کے دوسرے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو شام کا والی بنایا۔ حضرت عمرؓ حضرت ابو سفیان کے ہم قبیلہ نہ تھے نہ اس میں کسی قسم کی اقربانوازی کا کوئی پہلو تھا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس باب میں بھی حضرت عمرؓ کی نظر سیرت رسالت پر تھی۔ جن لوگوں کو حضور نے آگے کیا تھا، آپ بھی انہی لوگوں کو آگے کرنا چاہتے تھے۔ آپ چونکہ بنو امیہ میں سے نہ تھے، اس لیے منافقین آپ پر اقربانوازی کا الزام نہ لگا سکے۔ حضرت عمرؓ نے جب حضرت معاویہ کو ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی جگہ مقرر کیا تو حضرت ابو سفیان نے نہایت واضح الفاظ میں اس کی صراحت کر دی تھی۔

آپ نے ایک بھائی کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو اس عہدے پر لگا کر صلہ رحمی کا ایک عمل کیا ہے۔“ (البدایہ، ص ۱۱۸) حضرت عمرؓ نے اس پر سکوت فرمایا اور یہ صحیح ہے کہ آپ کے اس عمل پر کسی شخص کو انگلی اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان کی اس عظیم شخصیت اور تاریخی عبرتیت کے پیش نظر ضروری تھا کہ آپ کا تذکرہ ایک مستقل کتاب کی صورت میں طلبہ کے سامنے آئے تاکہ ان کے ذہنوں کو، جو عصبیت کے سائے میں ان مبارک عزیز داریوں کو بھی، جو اس خاندان کی بنو ہاشم کے ساتھ تھیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ تسکین اور شفا میسر آ سکے۔

موضوع بہت اہم تھا۔ اس بات کا مواد تاریخ کے اوراق میں بہت بکھرا ہوا تھا۔ ان مباحث کے پہلو اور زاویے بھی بہت تھے اور مورخین کے بیانات میں کئی کئی امور میں تضادات بھی تھے۔ ایسے موضوع پر قلم اٹھانا اور تحقیق کی راہ سے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے کنارے پر نکل آنا کوئی آسان کام نہ تھا لیکن یہ اللہ

رب العزت کی عطا ہے، جسے چاہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ولقد جاء فنى
المثل السائر کم ترک الاول للاخر یہ سعادت اللہ رب العزت
نے مولانا محمد نافع صاحب دامت برکاتہم کے نامہ لکھی تھی، جو اس درطہ مباحث
س دور تک چلے گئے اور الحمد للہ کامیاب ہو کر ساحل مراد پر اترے۔

اللہ رب العزت ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور
ان محسنین اسلام کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرمائے جو اپنی محنتوں سے اسلام کے
چراغ روشن کر کے اب جنت میں خیمے لگا چکے ہیں۔ احقر ان چند سطور کے ذریعہ
حضرت مولانا محمد نافع کو اس دینی، علمی اور تاریخی محنت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے پر
خوشی محسوس کرتا ہے۔

والسلام

احقر خالد محمود عنی اللہ عنہ

یکم فروری ۱۹۸۳ء

رائے گرامی

از حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب دامت برکاتہم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ابعد! حضرت مولانا محمد نافع صاحب مدظلہم (نفع اللہ المسلمین بعلمہ) کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ آپ فضاء قدیم دارالعلوم دیوبند میں سے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو علم، فہم اور قلم کی نعمتوں سے نوازا ہے اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تحریرات میں اعتدال ہے، تقویٰ ہے اور اتباع اسلاف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ پر قائم رکھے۔ آپ کے دو نئے رسائل کے مطالعہ کا موقع ملا، جن کا موضوع ”حضرت ابوسفیان اور ان کی اہلیہ“ محترمہ حضرت ہند ہیں رضی اللہ عنہما۔ آپ نے ان رسائل میں ہر دو حضرات کی فضیلتیں جمع فرما دی ہیں، جن کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ جناب رسالت مآب ﷺ کے فیض صحبت مبارکہ کی تاثیرات کتنی عظیم تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ کیا تھے اور اسلام لانے کے بعد ان میں کیا انقلاب آیا۔ یہ جناب رسول اللہ ﷺ کا معجزہ بھی ہے اور ان زوجین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظیم ترین خوش نصیبی اور فضیلت۔ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب صحابہ کرام کی تعظیم ہی کرتے رہیں، ان

سے محبت رکھیں اور آخرت میں ان کے اور جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
محشور ہوں۔ (آمین)

ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا
بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا
ربنا انک رؤوف رحیم ۰

حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب

جامعہ مدینہ کریم پارک لاہور

۱۳ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

۲۹ جنوری شنبہ ۱۹۸۳ء

ضروری گزارش:

سابقہ کتابچہ ”حضرت ابوسفیان“ اور ان کی اہلیہ ” کے نام سے طبع کیا گیا اور وہ بحمد اللہ ناظرین کے لیے سود مند ثابت ہوا اور اہل علم حضرات نے بھی اس کی قدر دانی فرمائی۔ اب اس کی اشاعت ثانیہ میں کتابچہ مذکور میں کافی اصلاح اور ترمیم کی گئی ہے اور بعض ضروری حوالہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

مزید برآں اس موقع پر یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ بطور تتمہ و تکملہ کے حضرت ابوسفیان کے لائق اور نامور فرزند جناب یزید بن ابی سفیان کا مختصر تذکرہ شامل کیا جائے اور ساتھ ہی جناب ابوسفیان کی خوش نصیب صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر بھی درج کیا جائے۔

فلذا حضرت ابوسفیان بن حرب کی اولاد میں سے ان دونوں حضرات کے مختصر احوال ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ اس خاندان کی اسلام میں اہمیت و افادیت واضح ہو سکے اور ان کی اسلامی خدمات اور ملی کارناموں سے ناظرین کرام مطلع ہو سکیں۔ اور اب اس کتابچہ میں چہار حضرات (ابوسفیان، ہند بنت عتبہ، یزید بن ابی سفیان، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) کا تذکرہ آگیا ہے۔

سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ

الحمد لله وكفى والصلوه والسلام على سيد
الورى امام الرسل و خاتم الانبياء و على اله
الشرفاء واصحابه النجباء واتباعه الصلحاء
ذوى الدرجات العلى صلوة دائمة بدوام
السماء والدينا

- حمد و صلوة کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ابتلاء اور فتنہ و فساد کا دور ہے۔
دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے۔ ہوئے نفس غالب آرہی ہے۔ اس
پر فتن ایام میں دین پر قائم رہنا سہل کام نہیں رہا۔

اس دور کے دیگر مفاسد کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں طعن
و تشنیع و بدگوئی و عیب جوئی کا جو سیلاب آگیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس شر
عظیم سے محفوظ فرمائے۔

اندریں حالات حضرات صحابہ کرامؓ کے مقام کو بیان کرنا، ان کے کردار کو
واضح کرنا اور ان کی اسلامی خدمات کو اہل اسلام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہو گیا
ہے۔

اسی سلسلہ میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ حضرت ابوسفیان رضی
اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ (ہند بنت عتبہ) رضی اللہ عنہما کے مختصر حالات تحریر کیے جاتے

ہیں۔ صحابہ پر طعن کرنے والے لوگوں نے ان دونوں حضرات پر بھی کئی قسم کے اعتراض اور نقد قائم کیے ہیں۔

کتاچہ ہذا کے ذریعہ اسلام میں ان کا مقام معلوم ہو گا اور مطاعن کا جواب ہو سکے گا۔ تاہم آخر میں ازالہ شبہات اور حل عبارات کے عنوانات سے مستقل طور پر بھی بعض اعتراضات کا جواب پیش کر دیا ہے۔ منصف طبائع کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ باعث اطمینان ہو گا۔

نیز ان کے سوانح میں عموماً اسلام لانے کے بعد کے واقعات کو اخذ کیا گیا ہے۔ قبل از اسلام کے حالات کو زیادہ تر درج نہیں کیا۔ پہلے چند تمہیدات درج کی جاتی ہیں، ان کے بعد اصل مضمون پیش خدمت ہے۔

تمہیدی امر:

سید کوئین رضی اللہ عنہ کی مقدس جماعت جن کو صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بعد از انبیاء علیہم السلام بہترین جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان لوگوں کی بڑی توصیف و توثیق فرمائی ہے اور متعدد مقامات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔

○ ”سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف مصاحبت ان کو نصیب تھا، جو ایک نعمت کبریٰ ہے، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ دور اول کے لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان شان الصحبہ لا یعدلہ شئی^۱ (یعنی شان صحبت پیغمبر کے برابر کوئی چیز نہیں ہے)۔“

۱- الاصابہ، خطبہ الکتاب الفصل الثالث، ج اول، ص ۲۱

۲- الصواعق المحرقة لابن حجر المکی، ص ۲۱۲، تحت الخاتمۃ فی بیان اعتقاد اہل السنۃ

○ ان حضرات کے حق میں اپنے پیغمبر کریم ﷺ کی معیت میں ”احیائے اسلام“ اور ”اشاعت دین“ کے لیے غزوات میں شامل ہونا ایک نہایت ”برکت عظیمہ“ ہے۔

○ ان حضرات نے اپنا مال و جان صرف کر کے عظیم فتوحات اسلامیہ حاصل کیں، جو بعد میں آنے والے اہل اسلام کے لیے فروغ دین کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔

○ سردار دو عالم ﷺ کی جناب اقدس سے حسب المراتب اور حسب المواقع ان حضرات کو مختلف ”مناصب“ عطا ہوئے جو بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز اور فضیلت ہے۔

مندرجہ بالا تمام چیزیں اس جماعت کی ”بلندی مقام“ اور ”رفعت منزلت“ کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان حضرات کے دینی کمالات میں کسی ہوش مند و منصف طبع انسان کے لیے جائے کلام باقی نہیں رہتی اور ان کے تزکیہ نفس کے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

اب ذیل میں قرآن مجید کی مختصر چند آیات کریمہ نقل کی جاتی ہیں، جن سے تمام صحابہ کرام کا اہل جنت میں سے ہونا علماء نے نقل فرمایا ہے اور ان حضرات کے حق میں یقیناً ”جنتی“ ہونے کی بشارت ثابت کی ہے۔

پارہ نمبر ۲ سورہ الحدید کے رکوع اول کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ہے:

وَمَالِكُمْ اَنْ لَا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِي مَنْ اَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ اَوْلٰئِكَ اَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ

انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی

واللہ بما تعملون خبیر ○

ترجمہ: ”یعنی کیا ہے تمہارے لیے کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فتح (مکہ) کے بعد والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ بہ اعتبار درجہ کے ان لوگوں کے مقابلہ میں بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد خرچ کیا اور جنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ”حسنی“ یعنی (جنت) کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔“

دوسری آیت میں، جو پارہ نمبر ۱۷، سورہ ”الانبیاء“ کے آخری رکوع میں وارد ہے، مالک کریم نے ارشاد فرمایا ہے:

ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک

عنہا مبعدون ○ (پارہ نمبر ۱۷، رکوع آخر)

ترجمہ: ”یعنی بلاشبہ وہ لوگ جن کے لیے حسنی (جنت) کا وعدہ ہماری

جانب سے پہلے ہو چکا ہے، وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔

ان ہر دو آیات کے مضمون کو ملانے اور مفہوم کو مرتبط کرنے سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام ”چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے ہوں، یہ سب بے شک اہل جنت میں سے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پہلی آیت مذکورہ میں لفظاً منکم کا مصداق اور مخاطب یہی حضرات ہیں اور ان تمام حضرات کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ پھر سہر بن لوگوں کے حق میں حسنی (جنت) سا مفاہات

ہو چکی وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ لہذا یہ مخالفین تمام کے تمام حسب وعدہ الہی جنت کے مستحق ہیں اور دوزخ سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ سچا ہے (ان وعد اللہ حق) وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔
ان اللہ لا یخلف المیعاد۔

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ”جنتی“ ہونے کے اس مضمون کو مندرجہ ذیل مقامات میں اکابر علماء نے درج کیا ہے۔ بیحد عبارت ملاحظہ فرمائیں:

وقال ابو محمد بن حزم الصحابہ کلہم من اهل الجنة قطعاً قال اللہ تعالیٰ (لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی)

و قال تعالیٰ (ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون)

فثبت ان الجمیع من اهل الجنة وانہ لا یدخل احد منہم النار لانہم المخاطبون بالایہ السابقہ

جو شخص بھی کتاب اللہ اور سنت نبویہ کے ساتھ یقین رکھتا ہے، مندرجات بالا کے ملاحظہ کرنے کے بعد اس کے لیے سردارِ دو عالم ﷺ کے تمام صحابہ کے

۱- (۱) الاصابہ لابن حجر، ص ۱۹، جلد اول، خطبہ الكتاب، الفصل الثالث، فی بیان حال الصحابہ، من العداۃ

۲- عقیدہ السفارینی لوائح الانوار البہیہ، شرح الدرہ المضیہ للشیخ محمد بن احمد السفارینی الحنبلی، ص ۳۷۲، جلد ثانی، طبع اول بصری

ساتھ صحیح عقیدت رکھنا لازم ہے۔

اور ان حضرات کے حق میں ”سوئے ظنی“ اور ”بدگمانی“ سے احتراز کرنا اور
 ”غلط نظریات“ سے اجتناب کرنا واجب ہے اور ان پر نقد و تنقید اور طعن و تشنیع
 سے اعراض کرنا ضروری ہے۔

اس مقدس جماعت کے ساتھ حسن ظن رکھنے سے مسلمان کا دین اور ایمان
 محفوظ رہتا ہے اور بد ظنی کرنے سے دین ضائع ہوتا ہے اور عاقبت خراب ہوتی
 ہے۔ اس بنا پر مومن کے لیے اپنے دین کی حفاظت اور عاقبت کی سلامتی کی فکر کرنی
 لازم ہے اور ان حضرات کی اتباع کر کے اپنی عملی زندگی کو درست کرنا واجب
 ہے۔

ان معروضات کے بعد مشہور صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سوانح
 پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت ہند بنت عتبہ کے احوال ذکر کیے جائیں
 گے۔ (بعونہ تعالیٰ)

نام و نسب و رشتہ داری

نبی اقدس ﷺ کے مشاہیر صحابہ میں سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا اسم گرامی عخر بن حرب ابن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ ان کی مشہور کنیت ابو سفیان ہے اور ابو حنظلہ غیر مشہور کنیت ہے اور حضرت امیر معاویہؓ کے والد ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے مبارک قبیلہ کے ساتھ چہارم پشت یعنی عبد مناف میں جا کر نسب مل جاتا ہے۔

رشتہ اول:

خاندان نبوت سے حضرت ابو سفیانؓ کی قرابت داری کا اندازہ اس رشتے سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو سفیانؓ کی لڑکی رملہ، جو کہ ام حبیبہ کی کنیت سے معروف تھیں، حضور اکرم ﷺ کی زوجیت میں تھیں اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف عظیم حاصل ہے۔ ام حبیبہؓ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاصؓ ہے جو حضرت عثمانؓ کی پھوپھی ہیں۔ جناب ام حبیبہؓ کا یہاں اختصاراً ذکر کیا ہے۔ آخر کتابچہ میں ذرا وضاحت سے ذکر ہوگا۔

حضرت ام حبیبہ (بنت ابی سفیانؓ) رضی اللہ تعالیٰ عنہا قدیم الاسلام تھیں اور انہوں نے اپنے سابق زوج (عبید اللہ بن جہش) کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ عبید اللہ بن جہش وہاں جا کر اسلام سے منحرف ہو کر نصرانی ہو گیا تھا اور وہیں

حبشہ میں اس کی موت واقع ہوئی۔

اس کے بعد حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کا نکاح نبی اقدس ﷺ سے کر دیا تھا۔ ان کا حضور ﷺ کے ساتھ یہ نکاح سن ۶ھ یا ۷ھ میں ہوا تھا۔ ابوسفیان تاحال مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بڑی باوقار اور شریف خاتون تھیں۔ رسالت مآب ﷺ کے ساتھ والمانہ محبت و عقیدت رکھتی تھیں۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے، جس میں مذکور ہے کہ ان کے والد ابوسفیان غیر مسلم ہونے کے دور میں ایک بار مدینہ شریف پہنچے۔ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے مکان میں ملاقات کے لیے داخل ہوئے اور نبی اقدس ﷺ کے لیے بچھے ہوئے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ فوراً انھیں اور بستر نبوی ﷺ کو پلیٹ دیا اور کہا کہ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ پیغمبر کا بستر ہے۔ آپ شبرک پر ہیں تو ابوسفیان نے کہا کہ ہمارے پاس سے آنے کے بعد تجھے شر لاحق ہو گیا ہے۔ (یعنی تیرا مزاج بگڑ گیا ہے)

مدت العر خدمت گزاری کی سعادت ان کو حاصل رہی اور شرف زوجیت انہیں نصیب رہا۔ نبی کریم ﷺ کے وصال مبارک کے بہت مدت بعد یعنی سن چوالیس ہجری (۶۲۴ھ) میں ان کا انتقال مدینہ میں ہوا اور باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعن جمیع امہات

(المومنین)

..... وتزوج النبی ﷺ ابنتہ ام حبیبہ قبل ان

یسلم و کانت اسلمت قدیما و ہاجرت مع

لے (۱- الاسابہ، ص ۲۹۹، ج ۱، راجع، تحت رملہ بنت ابی سفیان)

(۲- طبقات ابن سعد، ص ۷۰، ج ۸، جلد ثامن، تحت رملہ بنت ابی سفیان)

زوجها الى الحبشه فمات هناك^۱
 و كان تزويج رسول الله ﷺ اياها سنه ست و
 قال غيره سنه سبع و توفيت ام حبيبہ سنه اربع و
 اربعين^۲۔

رشتہ دیگر:

خاندان نبوی کے ساتھ حضرت ابو سفیان کی دوسری رشتہ داری کچھ اس
 طرح تھی کہ میموتہ (بنت حضرت ابو سفیان) کی دختر لیلیٰ (بنت ابی مرثد بن عروہ بن
 مسعود ثقفی) سیدنا حضرت امام حسینؑ بن علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں
 جن کے بطن سے علی اکبرؑ پیدا ہوئے اور میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔
 اس رشتہ داری کی شہادت سنی اور شیعہ مورخین نے برابر دی ہے۔ اہل علم
 کی آگاہی کے لیے سنی اور شیعہ مورخین کی عبارات پیش کی جاتی ہیں۔

سنی مورخین

قتل معہ علی بن الحسین بن علی امہ لیلی
 بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود الثقفی بن عامر
 بی معتب الثقفی و امہا میمونہ بنت ابی

۱۔ الاصابہ فی تیز الصحابہ، لابن حجر، ص ۱۷۲، جلد ثانی، معہ الاستیعاب، تحت عمر بن حرب

۲۔ الاصابہ، ص ۲۹۸، ۲۹۹، جلد الرابع، تحت رملہ بنت ابو سفیان

۳۔ شرح مسلم لابی و السنوی، ص ۳۳۲، ج ۶، جلد سادس، تحت فضائل ابی سفیان
 بن حرب

سفیان بن حرب بن اُمیہؓ

شیعہ مورخین

(۱) وعلی بن الحسین وهو علی الاکبر ولا عقب له ویکنی ابا الحسن وامه لیلی بنت ابی مرہ بن مسعود الثقفی وامہامیمونہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ وتکنی ام شیبہ وامہا بن ابی العاص بن امیہ وھراول من قتل فی الواقعہؓ چوں والدہ مخدرہ لیلی بنت میمونہ بنت ابی سفیان بن حرب است کہ خواہر معاویہ باشد پس مخدرہ لیلی از پدر منسوب بود بہ بنی ثقیف و از مادر بہ بنی امیہؓ

(منتخب التواریخ، از محمد ہاشم خراسانی، باب پنجم، مقصد سوم، امر چہارم، ص ۲۷۱، مطبوعہ جدید، تہران)

۳۔ شیخ عباس قتی نے اپنی کتاب مستی۔ الامال، جلد اول، فصل دوازدہم، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج کے ذکر میں، عبارت ذیل یہ رشتہ ذکر کیا ہے:

تے (۱) تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۲۲۵، الجزء الاول تحت سنہ احدی و ستین

(۲) نسب قریش لمصعب الزہری، ص ۱۲۶، تحت ولد ابی سفیان بن حرب

لہ (مقاتل الطالبین لابی الفرج الاصفہانی، المتوفی ۵۳۵ھ، ص ۵۳، الجزء

الاول، طبع بیروت، تحت ذکر الحسین بن علیؓ)

تے (منتخب التواریخ میں محمد ہاشم خراسانی نے رشتہ ہذا کو باب پنجم مقصد سوم، امر چہارم کے تحت ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ:

”و دیگر از زوجات آنحضرت لیلی بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفیہ است کہ مادرش میمونہ بنت ابی سفیان بودہ و او والدہ ماجدہ علی اکبر است و جناب علی اکبر ہاشمی است از طرف پدر و از طرف مادر بطائفہ ثقفیہ و امیہ قرابت دارد“

مندرجات بالا کی روشنی میں واضح ہو کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کے ”داماد“ ہیں اور جناب ابو سفیان ”نبی کریم ﷺ کے ”خسر“ ہیں۔

نیز واضح ہوا کہ حضرت ابو سفیان کی دختر زادی یعنی نواسی مسامۃ لیلی سیدنا حسین کی زوجہ محترمہ تھیں تو حضرت ابو سفیان حضرت حسین کی زوجہ کے نانا ہوئے اور لیلی حضرت امیر معاویہ کی خواہر زادی ہوئیں۔

اس طرح اس مبارک خاندان کے ساتھ حضرت ابو سفیان کا باہمی قرابت کا تعلق دائمًا قائم ہے، جو اسلامی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ سے ثبت ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو ہم نے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ یہ فرضی افسانہ نہیں ہے۔

مورخین نے لکھا ہے کہ جناب ابو سفیان نبی اقدس ﷺ سے عمر میں ایک قول کے مطابق قریباً دس سال بڑے تھے۔ اس میں اور اقوال بھی ہیں۔

حضرت ابو سفیان کی حضرت عباس کے ساتھ ہم نشینی

قبائل کے قدیم مراسم کے مطابق بنی ہاشم اور بنو امیہ کے اکابر آپس میں

۱۔ (مستی الامال، ص ۳۶۳، جلد اول، فصل دوازدہم، ۱۲۱) در بیان عدد اولاد

امام حسین، طبع تہران)

دوستی رکھتے تھے۔ قبائل کا یہ دیرینہ دستور ہے کہ ایک قبیلہ کے رُو بہادو سرے خاندان کے عظماء کے ساتھ مراسم قائم رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند ایک واقعات پیش خدمت ہیں۔ یہاں سے ان دونوں قبائل کے تعلقات پر روشنی پڑے گی۔

۱- مورخین نے لکھا ہے کہ ”دور جاہلیت“ میں جناب ابوطالب کے مراسم مسافر بن ابی عمرو بن امیہ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں حضرات کو باہم ”ندیم اور ہم نشین“ کہا جاتا تھا۔ اتفاق سے مسافر بن ابی عمرو بن امیہ فوت ہو گیا تو ابوطالب اس کی موت پر سخت پریشان ہوئے۔ مسافر کے بعد ابوطالب نے عمر بن عبدود کے ساتھ ہم نشینی اختیار کی۔

و کان ابوطالب بن عبدالمطلب ندیما
لمسافر بن ابی عمرو بن امیہ فمات مسافر
فنادم ابوطالب بعدہ عمرو بن عبدود (الخ)
مصعب الزبیری نے اپنی کتاب ”نب قریش“ ص ۱۳۶ تا ۱۳۷ پر مسافر مذکور کی وفات پر ابوطالب کا مرثیہ لکھا بھی درج کیا ہے۔ اس مقام میں ابوطالب کے مرثیہ کے صرف چار شعر منقول ہیں۔ باقی مرثیہ جو ابوطالب نے کہا تھا، وہ کتاب ”الاعانی“ میں ابو الفرج اصفہانی نے نقل کیا ہے۔

۲- اسی طرح ابوسفیانؓ (اموی) حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب (ہاشمی) کے ہم نشین اور مجلسی تھے۔ ان دونوں حضرات کی مصاحبت اور ہم نشینی مورخین نے بڑی تفصیل سے ذکر کی ہے اور ان کی باہمی دوستی اور

۱۔ (کتاب الحجر، لابی جعفر محمد بن حبیب بغدادی، ص ۱۷۴ تا ۱۷۵، تحت النداء ممن قریش، طبع حیدرآباد، دکن)

رفاقت کے متعلق کئی واقعات درج کیے ہیں۔

وکان ابوسفیان بن حرب ندیما للعباس بن

عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔^۱

قدیمی روابط کے سلسلہ میں یہ چیز بھی طبری وغیرہ مورخین نے تحریر کی ہے کہ ایک ہاشمی بزرگ ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ قبل از اسلام ان کے باہمی تجارتی تعلقات تھے۔ ان دونوں کا تاجرانہ کاروبار مشترک تھا اور مل کر تجارت کیا کرتے تھے۔

طبری میں ہے کہ:

عن سحیم بن حفص قال کان ربیعہ بن

الحارث بن عبدالمطلب شریک عثمان فی

الجاهلیہ (الخ)^۲

ابن اثیر جزیری نے اس کو مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر کیا ہے:

کان ربیعہ شریک عثمان بن عفان فی

التجارہ^۳

بنو امیہ کے اکابر و ہاشمی حضرات کے یہ چند ایک تعلقات نمونہ کے طور پر یہاں نقل کر دیے ہیں۔ ان سے دونوں قبائل کا قرب اور تعلق بخوبی واضح ہوتا ہے۔ پھر بعد از اسلام تو یہ حضرات وحدۃ دینی کی وجہ سے مزید مربوط ہو گئے۔

۱۔ کتاب الحجر، لابی جعفر محمد بن حبیب بغدادی، ص ۱۷۵، تحت الذمائم من قریش

۲۔ الاستیعاب، ص ۸۶، ج ۳، مع الاصابہ، تحت کنیت ابی سفیان؟

۳۔ اسد الغابہ، ص ۲۱۶، ج ۵، تحت کنیت ابی سفیان؟

۴۔ تاریخ ابن جریر الطبری، ص ۱۳۸، ج ۵، ذکر بعض سیر عثمان بن عفان، تحت ۵۳۵۔

۵۔ اسد الغابہ للجزیری، ص ۱۶۶، ج ۲، تحت ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب

اسلام لانا اور دخول دار کی فضیلت حاصل کرنا

ابو سفیان بن حرب اسلام لانے سے پہلے نبی اقدس ﷺ اور اہل اسلام کے سخت مخالف اور معاند تھے۔ قریش مکہ کی قیادت کرتے ہوئے عداوت میں ابو سفیان پیش پیش رہتے تھے۔ غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ میں اہل اسلام کے ساتھ انہوں نے پوری مخالفت کا ثبوت دیا تھا اور مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر عناد و فساد کھڑا کرنا ان کا شیوہ تھا۔

حضرت عباسؓ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے تو انہوں نے ابو سفیانؓ کے متعلق کوشش کی اور ترغیب دلائی کہ وہ ضرور اسلام لائیں۔ چنانچہ ان کی اس دیرینہ دوستی کا اثر ظاہر ہوا اور ان کی ترغیب سے ابو سفیان اسلام لائے۔

حضرت عباس اور ابو سفیان کی ایک گفتگو

اس موقع پر مورخین نے ان دونوں حضرات کی باہمی گفتگو کا ایک منظر ذکر کیا ہے۔

چنانچہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان ایک شب حضرت عباسؓ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان نے دیکھا کہ اہل اسلام نماز کے لیے اٹھے اور حصول طہارت کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس حالت کو دیکھ کر ابو سفیانؓ نے حضرت عباسؓ سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟

تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نماز کے لیے ندامتی ہے اور اب یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔

جب نماز قائم ہوئی تو ابو سفیانؓ نے دیکھا کہ یہ لوگ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں تو ابو سفیانؓ نے حضرت عباسؓ سے پوچھا:

قال يا عباس ما يا مرهم بشئى الا فعلوه؟ قال

نعم! واللہ لو امرہم بترک الطعام و الشراب
لاطاعوہ۔

ترجمہ: ”یعنی اے عباس! ان کے نبی ﷺ جس بات کا ان کو حکم دیتے ہیں یہ وہی کر گزرتے ہیں۔“

تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ ہاں! اگر بالفرض ان کے نبی انہیں خورد و نوش بھی ترک کرنے کا حکم دیں تو وہ بھی تسلیم کریں گے اور واقعہ ہذا محدث عبد الرزاق نے اپنے ”المصنف“ جلد خامس کے صفحہ ۷۶، ۳ ج ۵ پر اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔
ابوسفیان کے قبول اسلام کا واقعہ علامہ ذہبی نے ”المستقی“ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ابوسفیانؓ فتح مکہ کے موقع پر حالات کی جستجو کی لیے جب مکہ سے باہر نکلے تو حضرت عباسؓ نے ان کو دیکھ لیا اور انہیں پکڑ لیا اور سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ان کو حاضر کیا اور ابوسفیانؓ مشرف بہ اسلام ہوئے اور حضرت عباسؓ نے آنحضرت ﷺ سے ان کے لیے شرف و فضیلت حاصل کرنے کے طور پر عرض کیا کہ ابوسفیانؓ شرف و فضیلت اور افتخار کو پسند کرتے ہیں۔ آپؐ ان کو شرف و فضیلت کی چیز عنایت فرمائیں۔

(۱- المستقی للذہبی، ص ۷۲، ۳)

اس سے قبل یہی ابوسفیان اہل اسلام کے لیے رئیس الاعداء تھے۔ قدم قدم پر شقاوت و عداوت کا مظاہرہ کرنے والے اور عناد رکھنے والے تھے نیز اسلام کے خلاف انواع کے سپہ سالار ہوتے تھے۔ لیکن اب ابوسفیانؓ کی تقدیر بدلی ہے اور بخت یاد رہا ہے۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں اور حضرت عباسؓ کی سفارش سے مستفیع ہوئے ہیں تو اب سابق ابوسفیان نہیں رہے بلکہ ایمان کے نور

لے (البدایہ و النہایہ، لابن کثیرؒ، ص ۲۹۱، جلد رابع، تحت فصل اسلام عباسؓ)

سے منور شدہ ابوسفیان ہیں۔

اندریں حالات خاندانی عظمت شناسی فرماتے ہوئے نبی اقدس ﷺ نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابوسفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا تو اسے اس موقع پر امان حاصل ہے اور جو اپنا دروازہ بند رکھے گا، اسے بھی امان دی جاتی ہے۔ جو مسجد میں داخل ہو جائے گا، وہ بھی مامون ہے۔ سبحان اللہ ابوسفیان کے گھر کو دارالامان بنا دیا گیا ہے۔

قال العباس قلت يا رسول الله ﷺ ان
اباسفیان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً
قال نعم ومن دخل دار ابی سفیان فهو امن ومن
اغلق بابہ فهو امن ومن دخل المسجد فهو
امن.....

حافظ ابن حجرؒ نے اس موقع پر ثابت البنانی سے مزید ایک چیز یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ میں تشریف لاتے تو ابوسفیان کے مکان میں تشریف لایا کرتے۔ یہ ایک مستقل فضیلت کی چیز ہے جو اعزاز کے طور پر ان کو حاصل ہوئی۔
عن ثابت البنانی انما قال النبی ﷺ من

۱- مسلم شریف، ص ۱۰۳، ج ۲، جلد ثانی، باب فتح مکہ (طبع نور محمد دہلی)

۲- المصنف لابن ابی شیبہ، ص ۴۹۶، ج ۱۳، طبع کراچی

۳- نسب قریش، ص ۱۲۲، تحت ذکر ولد حرب بن امیہ

۴- طبقات ابن سعد، ص ۹۸، ج ۲، جلد ثانی، قسم اول، تحت غزوہ عام الفتح

۵- سیرت ابن ہشام، ص ۴۰۳، ۴۰۵، جلد ثانی، تحت قصۃ الاسلام ابی سفیانؓ

۶- مسند اسحاق بن راہویہ ابی یعقوب الحنفی، ص ۴۴، تحت مسند ابی ہریرہؓ

۷- المصنف لعبد الرزاق، ص ۳۷۶، ج ۵، تحت غزوہ الفتح

دخل دارابی سفیان فهو امن لان النسبی صلی اللہ علیہ وسلم کان
اذا وى بمکہ دخل دارابی سفیان رواه ابن سعد۔

فتح مکہ کے موقع پر ایک اور واقعہ ابو سفیان اور ان کی زوجہ ہند کے متعلق
علماء نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس موقع پر مکہ شریف فتح ہوا اور مسلمان مکہ میں
داخل ہوئے تو تکبیر اور تہلیل کہتے رہے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے
رہے۔ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس رات ابو سفیان نے اپنی زوجہ ہند (بنت
عقبہ بن ربیعہ) کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”کیا تو یہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے خیال کرتی ہے؟“

ہند نے جواب دیا کہ ہاں! یہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جب
صبح ہوئی تو ابو سفیان کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے ہند سے یہ
بات کہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر اس نے اس بات کی
تصدیق کی ہے کہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو ابو سفیان عرض کرنے
لگے کہ بے شک میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور
برحق رسول ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کا حلف اٹھایا جاتا ہے یہ میرا قول
میری زوجہ (ہندہ) کے بغیر کسی اور نے نہیں سنا تھا۔

عن سعید بن المسیب قال کان لیلہ دخل
الناس مکہ لیلہ الفتح لم یزا لوفی تکبیر و
تہلیل و طواف بالبت حتی اصبحوا فقال
ابوسفیان لہند اترین ہذا من اللہ؟ قالت نعم

۱- (۱- الاصابہ، ص ۱۷۲ تا ۱۷۳، جلد ثانی تحت عمر بن حرب)
۲- (۲- تہذیب التہذیب، ص ۳۱۱، ج ۲، جلد ثانی، تحت عمر بن حرب)

هذا من الله قال ثم اصبح ابوسفیان فغدا الى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ قلت لهندا ترين هذا من الله قالت نعم هذا من الله فقال ابوسفیان "اشهد انك عبد الله ورسوله والذي يحلف به ماسمع قولی هذا احد من الناس غیر هند" ^{له}

غزوات میں شرکت، مجاہدانہ کارنامے اور پر خلوص قربانیاں

غزوہ حنین

فتح مکہ کے بعد نبی اقدس ﷺ نے غزوہ حنین کی تیاری فرمائی۔ آنجناب ﷺ کی معیت میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اہل حنین کے ساتھ بڑا مقابلہ ہوا۔ آخر کار مالک کریم نے اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ اس غزوہ میں حضرت ابوسفیانؓ اور ان کے دونوں لڑکے (یزید بن ابی سفیانؓ اور معاویہ بن ابی سفیانؓ) بھی شامل و شریک تھے۔

نبی اقدس ﷺ نے تقسیم غنائم کے موقع پر جہاں اور جدید الاسلام حضرات کو تالیف قلب کے طور پر حسب معمول مقدار سے زائد حصے عنایت فرمائے، وہاں ابوسفیانؓ اور ان کے دونوں فرزندوں کو ایک ایک سواونٹ اور چالیس چالیس اوقیہ (جو رائج الوقت سکہ تھا) عنایت فرمائے۔ حضرت ابوسفیانؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آنجناب بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ اللہ

۱- البدایہ والنہایہ، ص ۳۰۳، جلد رابع، تحت بحث فتح مکہ

۲- کنز العمال، ص ۲۹۷، ج ۵، جلد خامس، بحوالہ ابن عساکر و سندہ صحیح طبع اول کتاب

کی قسم جاہلیت میں) اگر آپ سے جنگ ہوئی تو آپ کو بہترین جنگی معاملہ کرنے والا پایا اور اگر آپ سے صلح ہوئی تو آپ کو عمدہ صلح کن پایا۔ آنجناب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔

و شہد حنینا و اعطاء رسول اللہ ﷺ من
غنائمها ثمانہ بعیر و اربعین اوقیہ کما اعطی
سائر المولفہ قلوبہم و اعطی ابنیہ یزید و
معاویہ فقال لہ ابوسفیان واللہ انک کریم
فداک ابی و امی واللہ لقد حاربتک فنعم
المحارب کنت ولقد سألمتک فنعم المسالم
انت جزاک اللہ خیرا۔

ابوسفیانؓ پر اعتماد نبوی:

اہل اسلام نے غزوہ حنین کے اختتام پر فریق مخالف کے کم و بیش قریباً چھ ہزار مرد و زن کو جنگی قیدی بنا لیا۔

اب ان قیدیوں کو کچھ عرصہ زیر حراست رکھنے کی ضرورت تھی تو اس اہم منصب کے لیے نبی اقدس ﷺ نے حضرت ابوسفیانؓ کو منتخب فرمایا۔ اس چیز کو مشہور محدث عبدالرزاق نے اپنے ”المصنف“ جلد خامس میں ص ۳۰۱ پر واقعہ حنین کے تحت عبارت ذیل نقل کیا ہے:

۱- الاستیعاب لابن عبدالبر، ص ۱۸۳، ج ۲، الجزء الثانی، معہ الاصابہ تحت عرین حرب طبع

(مصری)

۲- اسد الغابہ، ص ۱۳-۱۲، ج ۳، تحت عرین حرب، طبع تھران

ان النبی ﷺ سبى يومئذ ستہ الاف سبى من
امراه و غلام فجعل عليهم رسول الله ﷺ
اباسفيان بن حرب -

یہاں سے حضرت ابو سفیانؓ کی امانت و دیانت اور صلاحیت پر اعتماد نبویؐ کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے جو ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور باعث افتخار ہے۔ اور حقیقت میں ان کے اخلاص پر یہ واقعہ شہادت کاملہ ہے۔ اس لیے کہ ایسے نازک مراحل میں کسی نا پختہ کردار اور غیر مخلص انسان پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

غزوہ طائف میں شرکت اور ایک چشم کی قربانی:

اسی سال ۸ھ میں غزوہ طائف پیش آیا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت ابو سفیانؓ اسلامی افواج کے ساتھ شریک جہاد ہوئے۔

جنگ کے دوران ایک شخص سعید بن عبید الشقی نے نشانہ لگا کر تیر مارا جس سے ابو سفیانؓ کی آنکھ اپنے مقام سے باہر آگئی تو حضرت ابو سفیانؓ نے آنکھ اٹھائے ہوئے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فی سبیل اللہ میری آنکھ کو یہ عارضہ پیش آ گیا ہے تو آنجنابؐ نے ارشاد فرمایا کہ آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں اور آنکھ واپس مل جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو جنت ملے گی اور حضرت ابو سفیانؓ نے عرض کیا مجھے جنت چاہیے۔

وروی الزبير من طريق سعيد بن عبید الشقی
قال رمیت اباسفيان يوم الطائف فاصبت عينه
فاتى النبی ﷺ فقال هذه عيني اصيبت في
سبيل الله قال ان شئت دعوت فردت اليك وان

شئت فالجنه قال الجنة

(یعنی اختار الجنة)

اور ابن قتیبہ دینوری نے بھی المعارف میں ”اسماء الخلفاء“ کے عنوان کے تحت حضرت ابوسفیانؓ کی ہر دو چشم کی قربانی پیش کرنا درج کیا ہے۔ ایک آنکھ واقعہ طائف میں قربان کی تھی اور دوسری جنگ یرموک میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دے کر نابینا ہو گئے تھے۔ عمر رسیدہ ہونے کی حالت میں ہم چوں قسم کی اہم قربانیاں اسلام کے راستہ میں پیش کرنا اخلاص دین کی علامت ہے اور جذبہ ایثار کی بین دلیل ہے۔

حضرت ابوسفیانؓ کا بت شکنی کے لیے انتخاب

قبیلہ بنی قتیف جب اسلام لایا تو ان میں ایک بت تھا (الطاغیۃ وہی اللات) یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کو نہ گرایا جائے۔ لیکن نبی اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گرا کر پاش پاش کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے حضرت ابوسفیانؓ اور

۱۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ص ۱۷۲ تا ۱۷۳، ج ۲، تحت عمر بن حرب)

۲۔ کنز العمال، ص ۳۰۷، ج ۵، جلد خامس، تحت غزوہ الطائف، کتاب الغزوات، طبع اول، دکن (بحوالہ ابن عساکر)

۳۔ تاریخ الخلیفہ، جلد ثانی، ص ۱۱۲، اور ۲۵۶، تحت غزوہ الطائف و تحت حالات عثمان:

تالیف الشیخ حسین بن محمد بن الحسن الدیاری بکری، المتوفی ۹۶۰ھ)

۴۔ الحمیر لابن جعفر بغدادی، ص ۲۶۱، طبع حیدرآباد دکن

۵۔ فتوح البلدان للبلاذری، ص ۶۳، تحت الطائف)

۱۔ المعارف، ص ۱۵۰، لابن قتیبہ الدینوری، تحت اسماء الخلفاء، طبع اول مصری)

۲۔ سیرة طیبہ، ص ۱۳۲، جلد ثالث، تحت غزوہ طائف)

مغیرہ بن شعبہؓ کو ارشاد فرمایا۔ انہوں نے جا کر اس بت کو گرا دیا۔^۱ لے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نبی اقدس ﷺ نے ابوسفیانؓ کو تئید کے مقام میں ”منات بت“ گرانے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اس کو جا کر گرا دیا۔^۲

قضائے دین کے لیے حضرت ابوسفیانؓ کا تعین

قبیلہ بنی تمیمت جب اسلام لایا، ان میں جو بت تھا، اسے منہدم کر اویا گیا تھا۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوا (اسی کو الطائفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے) اس کے نام پر قوم میں بت سے اموال جمع تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے ان اموال کو جمع کیا۔

وہاں دو شخص عروہ اور اسود نامی تھے۔ یہ مقروض تھے۔ نبی کریم ﷺ کی جانب سے ان کے قرض اتارنے کا حکم جاری ہوا تو اس وقت آنجناب ﷺ نے حضرت ابوسفیانؓ کو امر فرمایا کہ عروہ اور اسود کے قرض کو ”طاغیہ“ کے اموال میں سے ادا کر دیا جائے تو مغیرہ اور ابوسفیانؓ دونوں نے اس کام کو سرانجام دیا۔ اس طرح مغیرہ نے مال مذکور فراہم کیا اور ابوسفیانؓ نے دونوں مذکور شخصوں کے دین کو ان اموال سے ادا کر دیا۔^۳

۱- سیرت ابن ہشام، جلد ثانی، ص ۵۳۰ تا ۵۳۱، تحت حالات وند تمیمت

۲- جوامع السیرت لابن حزم، ص ۲۵۷، تحت عنوان اسلام تمیمت

۳- البدایہ لابن کثیر، جلد خامس، ص ۳۰ تا ۳۳، تحت قدوم وند تمیمت علی رسول اللہ

(ﷺ)

۴- البدایہ لابن کثیر، ص ۳۹، ج ۸، تحت ۵۵۰ احوال مغیرہ بن شعبہ

۵- کتاب الحجر، ص ۳۱۵، طبع حیدر آباد، دکن

۱- الاصابہ مع الاستیعاب، ص ۱۷۲، ج ۲، جلد ثانی، تحت محرمین حرب

۲- تہذیب التہذیب، لابن حجر، ص ۳۱۲، ج ۳، جلد رابع تحت محرمین حرب

۳- سیرة ابن ہشام، جلد ثانی، ص ۵۳۲، ج ۲، تحت امر وند تمیمت و اسلام

تقسیم مال میں حضرت ابوسفیان پر اعتماد نبوی

عمرو بن قنواء الحزاعی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے بلا بھیجا۔ آنجناب نے ارادہ فرمایا کہ ابوسفیان کی طرف میرے ذریعہ مال روانہ فرمائیں تاکہ وہ قریش مکہ میں تقسیم کر دیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا موقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ساتھی بھی تلاش کر لے تو میرے پاس عمرو بن امیہ الضمری آیا۔ اس نے کہا تم مکہ جانا چاہتے ہو میں تمہارا ساتھی ہوں۔ میں نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا مجھے ساتھی مل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ عمرو بن امیہ ضمری ہے۔

وحتینا حتی اذا قدمنا مکہ فدفعت المال

الی ابی سفیان۔

یعنی ہم چلتے رہے حتیٰ کی ہم مکہ شریف پہنچ گئے تو میں نے مال ابوسفیان کو

دے دیا۔

ہدایا میں تبادلہ

عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اقدس ﷺ نے ابوسفیان کی طرف عجوہ کے خرماء ہدیہ ارسال فرمائے اور ان کو لکھا کہ عمرو بن امیہ ضمری کے بدست اس کے عوض میں چمڑے کی کھال ارسال کریں تو ابوسفیان نے آنجناب کے ہدیہ کو

۱- طبقات ابن سعد، جلد الرابع، قسم ثانی، ص ۳۲ تا ۳۳، تحت عمرو بن قنواء طبع لیدن)

۲- السنن الکبریٰ للبیہقی، جلد عاشر، ص ۱۲۹، ج ۱۰)

۳- تہذیب التہذیب، جلد خامس، ص ۳۳۰، ج ۵، تحت عبد اللہ بن عمرو بن قنواء

الحزاعی)

۴- جامع الاصول لابن اثیر، ص ۳۶۱، ۳۶۲، جلد ۱۲، بحوالہ ابی داؤد)

قبول کیا اور اس کے عوض میں کھال ہدیہ ارسال کی۔
صلح کے معاہدہ میں حضرت ابوسفیانؓ کی شہادت:

اہل نجران کے ساتھ جب صلح ہوئی تو اس وقت ایک عہد نامہ اہل اسلام اور نجران کے اہل کتاب کے درمیان تحریر کیا گیا تھا۔ یہ نبی اقدس ﷺ کے فرمان کے تحت لکھا گیا تھا اور عبد اللہ بن ابی بکر اس معاہدہ کے کاتب تھے۔ اس عہد نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں کی شہادت درج کی گئی ہیں، ان میں ایک حضرت ابوسفیان بن حرب بھی تھے۔ حضرت ابوسفیانؓ کے علاوہ چار شخص دیگر حضرات تھے۔ ان کے نام یہ ہیں (۱) غیلان بن عمرو (۲) مالک بن عوف (من بنی نصر) (۳) الاقرع بن حابس الحنظلی اور (۴) مغیرہ بن شعبہؓ۔

نجران کے صدقات پر حضرت ابوسفیانؓ کا عامل بنایا جانا

نجران والوں کے ساتھ مصالحت ہو جانے کے بعد وہاں مسلمانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف امیر اور حاکم بنائے جاتے تھے۔

نبی اقدس ﷺ کے آخری ایام میں نجران پر ابوسفیان کو آئیناب کے فرمان کے مطابق عامل اور حاکم بنایا گیا۔ اس چیز کو بہت سے علماء نے تصریحاً درج کیا ہے

۱- الاصابہ، ص ۱۷۲ تا ۱۷۳، جلد ثانی، تحت محربین حرب)

۲- مختصر تاریخ ابن عساکر لابن بدران جلد سادس، ص ۳۹۵، ج ۶، تحت محربین حرب)

۳- تاریخ خلیفہ ابن خیاط، جلد اول، ص ۶۲، ج ۱۱)

۴- کتاب الاموال، لابن عبید القاسم بن سلام، ص ۲۵۷، روایت نمبر ۶۳۱، طبع مصر)

۵- ۱- فتوح البلدان، للبلاذری، ص ۷۲، تحت صلح نجران)

۲- البدایہ لابن کثیر، جلد خامس، ص ۵۵، ج ۵، تحت ذمہ اہل نجران)

۳- کتاب الخراج لامام ابی یوسف، ص ۷۳، تحت قصہ نجران واہلہا)

اور طبری نے مزید وضاحت کی ہے کہ:
 حضرت عمرو بن حزمؓ نماز کے لیے امام مقرر تھے اور ابوسفیان بن حرب
 صدقات وغیرہ پر والی اور امیر تھے۔

حضرت ابوسفیانؓ کا ایک مرتد کو قتل کرنا

کبار علماء نے جناب ابوسفیانؓ کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سردار دو
 عالم رضی اللہ عنہما کے ارشاد کے تحت یمن کے بعض حلقوں کے لیے جناب ابوسفیانؓ عامل و
 حاکم بن کر تشریف لے گئے تھے۔ اس دوران جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
 ہو گیا۔ یمن میں وصال نبویؐ کی اطلاع پہنچی۔ حضرت ابوسفیانؓ اس علاقہ سے واپس
 آئے۔ دوران سفر ایک شخص (ذوالحمار) سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص اپنی بد بختی کی وجہ
 سے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جناب ابوسفیانؓ کا مقابلہ و
 مقاتلہ پیش آیا۔ یہ شخص ضد کی وجہ سے اپنے ارتداد پر قائم رہا اور حضرت ابوسفیانؓ
 نے اسے قتل کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں قاعدہ ہے کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد
 اسلام کو چھوڑ دے اور کفر و شرک اختیار کرے۔ اس کے متعلق ارشاد نبویؐ ہے کہ

-
- لے (۱- کتاب نسب قریش لمعبد الزبیری، ص ۱۲۲، تحت ولد حرب بن امیہ)
 (۲- کتاب الحجر لابن جعفر بغدادی، ص ۱۳۶، تحت امراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
 (۳- تاریخ خلیفہ ابن خیاط، ص ۶۲، ج ۱، جز اول، تحت عمال نبوی)
 (۴- جوامع السیرة لابن حزم، ص ۲۳، تحت امراء صلی اللہ علیہ وسلم)
 (۵- تاریخ طبری، ص ۲۶۳، ج ۳، ثالث ذکر خبر المرتدین بالیمن، طبع قدیم، تحت ۱۱ھ)
 (۶- تاریخ ابن خلدون، ص ۸۵۹، ج ۲، تحت ردہ الیمن)
 (۷- سنن الدار قطنی، ص ۱۶، ج ۴، تحت کتاب الطلاق، روایت ۴۶، طبع مصر)

اس کو قتل کر ڈالو (من بدل دینہ فاقتلوہ) لے

اس مقام پر علماء نے ایک عجیب بات تحریر کی ہے۔ وہ یہ کہ ”حضرت ابوسفیانؓ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے دین سے ارتداد والوں کے ساتھ قتال کیا اور دین سے ہٹ جانے والوں کے ساتھ جہاد کیا۔

یہی چیز حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی منقول ہے جو علامہ سیوطیؒ نے ابن مردویہ کے حوالہ سے باسند نقل کی ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اقامت دین کی خاطر اہل ردة کے ساتھ پہلے قتال کرنے والے حضرت ابوسفیانؓ ابن حرب ہیں۔

مندرجہ ذیل حوالہ جات میں اہل علم کی تسلی کے لیے پوری عبارت نقل کر دی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

واحسن من هذا مارواه ابن ابی حاتم حيث قال قری علی محمد بن عزیز حدثنی سلامه حدثنی عقیل حدثنی ابن شهاب ان رسول الله ﷺ استعمل اباسفیان صخر بن حرب علی بعض الیمن فلما قبض رسول الله ﷺ اقبل فلقى ذا الخمار مرتدا فقاتله- فكان اول من قاتل فی الردة وجاهد عن الدین قال ابن شهاب وهو ممن انزل الله فيه (عسی الله ان يجعل بینکم وبين الذین عادیتهم منهم موده) الايه-

۱- (المصنف لابن بی شیبہ، ص ۳۹۰، ج ۱۲، طبع کراچی، کتاب الجہاد)

۲- (الموطاء، الامام مالک، ص ۳۰۸، باب القضا، فیمن ارتد عن الاسلام، طبع دہلی)

(سورۃ الممتحنہ، پارہ نمبر ۲۸) نے

مزید برآں تفسیر ”الدر المشور“ میں یہ روایت بھی منقول ہے کہ:

اخرج ابن مردويه عن ابن شهاب عن ابى سلمه بن عبدالرحمن عن ابى هريره قال اول من قاتل اهل الردہ على اقامه دين الله ابوسفيان ابن حرب.... (الخ) ۲

جنگ یرموک میں مجاہدانہ مساعی

جنگ یرموک خلافت فاروقی میں اہل اسلام کو پیش آئی تھی۔ بعض مصنفین نے اسے ۱۳ھ کے تحت درج کیا ہے جیسے طبری وغیرہ اور خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں اسے ۱۵ھ کے تحت ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

مقام یرموک شام کے علاقہ میں ہے۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے اہل اسلام کی بڑی زبردست فوج (تقریباً چوبیس ہزار) یرموک میں پہنچی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوسفیانؓ کے صاحبزادے یزید بن ابی سفیانؓ کو بھی فوج اسلامی کے ایک دستے پر امیر مقرر فرما کر روانہ کیا تھا۔ اسلام میں یہ بڑے معرکے کی لڑائی تھی۔ اس پر صحابہ کرامؓ نے بڑی عظیم قربانیاں پیش کیں۔

حضرت ابوسفیانؓ کے خاندان کے متعلق مصنفین نے چند چیزیں ذکر کی ہیں۔

۱۔ تفسیر القرآن، العظیم، لاسامعیل، ابن کثیر دمشقی، ص ۳۴۹، ج ۳، تحت الایہ، (عی اللہ ان بجعل..... الخ) طبع مصر

۲۔ الدر المشور، للسیوطی، ص ۲۰۵، ج ۶، تحت الایہ مذکور

۳۔ الدر المشور، للسیوطی، ص ۲۰۵، ج ۶، (طبع مصر) تحت الایہ، (عی اللہ ان بجعل..... الخ)

وہ یہاں مختصراً پیش خدمت ہیں۔

- ۱- حضرت ابو سفیانؓ خود شامل تھے۔ حالانکہ وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ اور پیرانہ سالی کے عالم میں تھے۔ ضعف و پیروی کے باوجود یہ جذبہ قابل قدر ہے۔
- ۲- حضرت ابو سفیانؓ کے فرزند اس جنگ میں شامل تھے۔ یزید بن ابی سفیانؓ فوج کے ایک حصہ کے امیر تھے۔
- ۳- حضرت ابو سفیانؓ کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ شریک جنگ ہوئیں اور اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔
- ۴- اسی طرح ابو سفیانؓ کی دختر جو ریہ بنت ابی سفیانؓ اپنے زوج کے ساتھ جنگ ہذا میں شریک ہوئیں اور ملی غیرت کا ثبوت دیا۔
- ۵- گویا کہ حضرت ابو سفیانؓ کے خاندان کے بیشتر افراد معرکہ ہذا میں شریک ہوئے اور اعلائے کلمہ اللہ کی خاطر قربانیاں پیش کیں۔

حضرت ابو سفیانؓ کا بڑا مخلصانہ مشورہ

جنگ یرموک میں صحابہ کرامؓ (خالد بن ولید عمرو بن العاصؓ ابو عبیدہ وغیرہم) حضرات نے قتال سے پہلے کئی بڑے اہم مشورے کیے۔ ان میں سے ایک مجلس مشاورت کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

روم کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے جب جیوش کے امراء صحابہؓ مشورہ کے لیے مجتمع ہوئے تو حضرت ابو سفیانؓ تشریف لائے اور فرمایا:

”یہ میں گمان ہی نہیں کرتا کہ میری زندگی میں قوم جنگی معاملات کے لیے مجتمع ہو اور میں اس میں حاضر نہ ہوں۔ پھر مشورہ دیا کہ فوج کے تین حصے کر دیے جائیں۔“

فوج کا ایک حصہ تو رومی فوج کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو جائے۔
 فوج کا دوسرا حصہ اپنے بھاری مال و متاع اور بال بچوں کی حفاظت کا ذمہ
 لے۔ اور فوج کا تیسرا حصہ خالد بن ولید کی نگرانی میں سابقہ دونوں حصوں سے
 عقب میں رہے اور ان کے پیچھے پیچھے تمام حالات پر نظر کرتے ہوئے چلے اور ایسی
 جگہ پر اتریں کہ ان کی پشت کے پیچھے جنگل اور میدان ہو تاکہ ان کو پشت کی طرف
 سے قاصد اور برید مل سکیں اور ہر قسم کی معاونت اور مدد پہنچائی جاسکے۔
 پس ان حضرات کو حضرت ابوسفیانؓ نے جو مشورہ دیا، وہ انہوں نے تسلیم کر
 لیا اور ان کی یہ بہترین اور عمدہ رائے تھی۔

فامثلوا ما اشار به ونعم الراى هو۔
منصب ”القاص“ کا تعین

جنگ یرموک میں تقسیم کار کی صورت یہ کی گئی کہ اگر کسی تنازعہ میں فیصلہ کی
 ضرورت پیش آئے تو حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی اور فیصل ہوں
 گے۔ یعنی وقتی تنازعات کا چکانا ان کے سپرد تھا۔

اسی طرح حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”منصب القاص“ پر فائز تھے
 اور آیات جہاد لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کا کام المقداد بن الاسود کر رہے
 تھے۔ اس موزوں تقسیم کے تحت یہ حضرات اپنے اپنے مقام پر مصروف کار تھے۔
 (”القاص“ کے منصب کا مفہوم یہ ہے کہ افواج میں خطیب اور لیکچرار کی
 ضرورت ہوتی ہے جو فوجوں کو موقع بہ موقع قتال پر آمادہ کرتا ہے۔ ان کی
 ڈھارس بندھانے، ہمت افزائی کرنے اور جذبات ابھارنے کے لیے لیکچر دیتا ہے۔
 اس کام کو حضرت ابوسفیانؓ نے بڑے سلیقہ سے یرموک کے موقع پر انجام دیا)

۱۔ (البدایہ لابن کثیر، جلد سابع، ص ۶ تا ۷، تحت واقعہ یرموک، طبع اول مصر)
 ۲۔ (البدایہ لابن کثیر، جلد سابع، ص ۸، ج ۷، تحت واقعہ یرموک، طبع اول مصر)

حضرت ابو سفیانؓ کے ایمان افروز خطبے

حضرت ابو سفیانؓ چونکہ منصب القاص پر فائز تھے، اس بنا پر واقعہ یرموک میں انہوں نے اسلامی فوج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

۱- ”اے اہل اسلام کی جماعت! تم عرب لوگ ہو اپنے اہل و عیال سے منقطع ہو کر دار عجم میں پہنچ چکے ہو۔ اپنے امیر المؤمنین اور مسلمانوں کی امداد سے دور ہو چکے ہو۔ ایسے دشمن کے ساتھ تمہارا سامنا ہوا ہے جو تعداد میں تم سے کثیر ہے اور تم پر سخت غضب ناک ہو رہا ہے اور تم نے ان کو ان کے شہروں میں گھبرا دیا ہے اور ان کے بال بچوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم! تمہیں اس قوم سے نجات نہیں مل سکتی اور تم قیامت میں اللہ کی رضا کو نہیں حاصل کر سکتے۔ بجز مخالفین سے صدق دل سے تقابل کرنے اور ناگوار مقامات میں استقامت دکھلانے کے ذریعے سے۔“

خبردار! لازماً یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا... تمہارے درمیان اور امیر المؤمنین اور مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صحرا ہیں اور جنگل ہیں۔ ان میں کسی کے لیے جائے پناہ اور لوٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ صرف صبر کرنا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس پر امید رکھنا ہوگی۔ پس وہی اعتماد اور بھروسے کی چیز ہے۔ حفاظت کرو اور قوت پکڑو اپنی تلواروں کے ذریعے اور ایک دوسرے سے تعاون کرو تاکہ یہ تمہارے محفوظ ہتھیار بنے رہیں پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ان کو کئی وصیتیں فرمائیں۔ پھر لوٹ کر لشکر کے سامنے آکر آواز دی کہ اے اہل اسلام! یہ سنگین حالات سامنے ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو۔ پس یہ

رسول خدا اور جنت تمہارے آگے ہیں۔ شیطان اور آتش تمہارے پیچھے ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے موقف کی طرف تشریف لے گئے۔^۱

۲- ”(انہی ایام میں ایک دوسرے موقع پر) حضرت ابو سفیانؓ نے اسلامی فوج کے سامنے حسب موقعہ خطاب کیا اور بڑے اچھے طریقے سے قتال کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر یا معشر اہل الاسلام خطاب کر کے فرمایا: ”یہ اللہ کے رسول اور جنت تمہارے سامنے ہیں اور شیطان اور آگ تمہارے پیچھے ہے۔ عورتوں کو ابو سفیان نے برا نگینہ کیا اور فرمایا کہ جس شخص کو فوج سے پشت دے کر فرار ہوتا ہو ادیکھو تو اسے پتھروں اور ڈنڈوں سے خوب پیٹو حتیٰ کہ وہ فوج کی طرف واپس آجائے۔“^۲

۳- بعض دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ فوجی دستوں کے سامنے ابو سفیانؓ چکر لگاتے تھے اور فرماتے تھے:

”اللہ سے خوف کرو اللہ سے خوف کرو۔ تم عرب کی طرف سے مداخلت کرنے والے ہو اور اسلام کے امدادی ہو اور وہ روم کی طرف سے دفاع کرنے والے ہیں اور شرک کے امدادی ہیں۔ اے اللہ! تیرے ایام میں سے یہ بڑا اہم یوم ہے۔ اپنے بندوں پر اپنی خاص نصرت و رحمت نازل فرما۔“

”اللهم انزل نصرک علی عبادک (الخ)“^۳

۱- (البدایہ لابن کثیر، جلد سابع، ص ۹، تحت واقعہ یرموک، طبع اول، مصر)
 ۲- (البدایہ لابن کثیر، جلد سابع، ص ۱۰ تا ۱۱، تحت واقعہ یرموک، طبع اول،

مصر)

۳- (۱- تاریخ طبری، جلد رابع، ص ۳۳، تحت خبر یرموک، (السنۃ الثانیۃ العشرہ)

(۲- البدایہ لابن کثیر، جلد رابع، ص ۹، تحت واقعہ یرموک، طبع اول، مصر)

۴- سعید بن مسیب اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن ایک موقع پر سب آوازیں خاموش ہو گئیں مگر ایک آواز آرہی تھی کہ یا نصیر اللہ اقترب یعنی اے اللہ کی مدد قریب ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت ابوسفیانؓ تھے۔ جو اپنے فرزند یزید بن ابی سفیانؓ کے جھنڈے کے تحت کام کر رہے تھے اور دعا کے مذکورہ کلمات زبان پر جاری کیے ہوئے تھے۔^۱

۵- مورخین نے اس موقع پر حضرت ابوسفیانؓ کی مساعی اور کوششوں کو بڑے عمدہ انداز میں عبارت ذیل ذکر کیا ہے:

و كان ذالك في شهر جمادى (۱۳) و ان
 اباسفیان " بن حرب ابلی یومئذ بلاء حسنا
 بسعیہ و تحریضہ۔^۲
 یعنی اس موقع پر حضرت ابوسفیانؓ اپنی بہترین مساعی اور تحریض و
 انگیخت کی بنا پر آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ لیکن وہ کامیاب و کامران رہے
 اور ان کے پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا۔ یہ ثابت قدمی ان کے ایمان کی پختگی کی
 دلیل ہے۔

-
- ۱) کتاب نب قریش، ص ۱۲۲، تحت ولد حرب بن امیہ
 (۲) البدایہ لابن کثیر، ص ۱۳، جلد سابع تحت واقعہ یرموک، طبع اول مصر
 (۳) تہذیب التہذیب لابن حجر، جلد رابع، ص ۳۱۱ تا ۳۱۲ تحت محرم بن حرب
 (۴) الاصابہ لابن حجر جز ثانی ص ۱۷۲، تحت محرم بن حرب
 (۵) المطالب العالیہ بزوائد السانید الثمانیہ لابن حجر عسقلانی، ص ۱۰۶، جلد رابع، تحت
 منقبۃ ابی سفیان، طبع اولیٰ الکویت
 (۶) المعرفۃ والتاریخ للبلسوی، ص ۳۰۰، ج ۳، تحت ۱۵ھ
 ۱) (تاریخ ابن خلدون، ص ۹۰، ج ۲، تحت بعوث الشام، طبع بیروت)

میدان جنگ میں اپنے بیٹے کو وصایا

یرموک کے دن یزید بن ابی سفیانؓ نے قتال شدید کیا اور یہ فوج کے ایک حصہ کے امیر تھے۔ انہوں نے خوب ثابت قدمی دکھائی۔ (ایک بار) ان کے والد ابو سفیان ان کے پاس سے گزرے اور ان کو ثابت قدمی کے متعلق وصایا فرمائیں کہ:

”اے فرزند! اللہ سے خوف کرنا اور صبر و استقامت سے رہنا۔ اس وادی میں موجودہ مسلمان قتال میں گھر گئے ہیں۔ آپ اور آپ جیسے جو دوسرے حضرات اس وقت مسلمانوں کے معاملہ میں ذمہ دار ہیں، صبر و نصیحت کے زیادہ حق دار ہیں۔ اے بیٹے! اللہ سے خوف کیجئے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی فرد جنگی معاملہ کے متعلق اجر اور صبر میں آپ سے زیادہ راغب نہ ہو اور دشمنان اسلام کے خلاف آپ سے زیادہ جرات مند نہ ہو تو فرزند نے عرض کیا انشاء اللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر اس نے نہایت سخت قتال کیا۔ (الح) پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مقام میں فتح مندی سے ہمکنار کیا۔

یرموک میں چشمہ دیگر کی قریبانی

حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ یرموک میں جو خدمات جلیلہ سرانجام دیں، ان میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ ان کی دوسری آنکھ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئی جب کہ پہلی آنکھ غزوہ طائف میں اس سے قبل شہید کرا چکے تھے۔ گویا جناب ابو سفیانؓ نے اللہ کے راستے میں صرف اسلام کی خاطر دونوں آنکھیں پیش

کر دیں اور ناپائنا ہو گئے۔ یہ ان کا کامل مخلصانہ کردار ہے۔
 جنگ یرموک میں جب ان کی آنکھ کو تیر لگا تو اس تیر کو ایک شخص ابو حشمہ
 نے آنکھ سے نکالا تھا۔ (طبری)

وفقت عینہ الاخری یوم الیرموک (السخ)
 حضرت ابوسفیانؓ کا احترام اور ان کے حسن اسلام کی شہادت

حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بھی بڑے احترام
 کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے حق میں قلیل ایام تالیف قلب کے شمار
 کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی نسبی شرافت اور طبعی صلاحیتوں کے پیش نظر دور
 نبوت میں ان کو اہم مقام حاصل تھا۔ اس کے بعد اکابر صحابہؓ ان کی بڑی عزت اور
 توقیر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوسفیانؓ کا
 بڑا اکرام و احترام کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ اپنے قبیلہ بنی امیہ کے سرداروں میں
 سے تھے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے اور اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ جو جاہلیت
 میں پسندیدہ اور بہترین لوگ متصور ہوتے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد اسلام میں
 بھی پسندیدہ اور بہترین ہیں۔

(خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام)

- ۱- کتاب نسب قریش، ص ۱۲۲، تحت ولد عمر بن حرب
 ۲- اسد الغابہ، ص ۱۲، ۱۳، فی معرفۃ الصحابہ لابن اثیر، ج ۳، ثالث، تحت عمر بن حرب، طبع
 مکتبہ اسلامیہ، تہران
 ۳- تاریخ الاسلام، لکذہبی، جلد ثانی، ص ۹۷، تحت ذکر ابی سفیان بن حرب
 ۴- تاریخ ابن جریر، طبری، ص ۳۶، ج ۳، تحت خبر یرموک، سنہ الثاثر عشرہ طبع قدیم (مصر)
 ۵- العبر فی خبر من غیر لکذہبی، ص ۳۱، جلد اول، تحت ۵۳۱
 ۶- سیرۃ حلبیہ، ص ۱۳۲، ج ۳، تحت غزوہ طائف

اذا فقهوا)

..... وکان عمرٌ یحترمہ وذلک لانه کان کبیر

بنی امیہ^۱

اور کبار علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسفیانؓ جب اسلام لائے تو پہلے ان کا شمار مولفہ القلوب میں تھا لیکن اس کے بعد ان کا اسلام نہایت صحیح اور پختہ رہا۔ انہوں نے دور نبوت میں اسلام کے بڑے اہم امور سرانجام دیے اور حضورؐ کے فرمان کے تحت کئی مقامات میں امیر اور حاکم متعین رہے۔ خصوصاً یرموک میں تو ان کے اعمال و کردار نہایت قابل ستائش ہیں۔ اسی طرح یرموک سے قبل اور بعد بھی ان کے لیے ”آثار محمود“ کتابوں میں مدون ہیں۔

اسی چیز کو مشہور مفسر و محدث اور مورخ حافظ ابن کثیر نے بالفاظ ذیل ذکر کیا

ہے:

”ثم لما اسلم حسن بعد ذلك اسلامه وکان

له مواقف شریفه وآثار محموده فی یوم یرموک و

ما قبله وما بعده“^۲

اسی طرح مشہور محدث مسلم شریف کے شارح علامہ محی الدین نوادی نے

حضرت ابوسفیانؓ کے اوصاف حمیدہ ذکر کرتے ہوئے اپنی مشہور تصنیف ”تہذیب

الاسماء واللغات“ میں تحریر فرمایا ہے کہ پہلے ”مولفہ القلوب“ میں سے تھے پھر

”حسن اسلام“ کے ساتھ متصف ہوئے۔

ثم حسن اسلامه..... (الخ)^۳

۱۔ (میر اعلام النبیلہ للذہبی، ص ۷۹، ج ۲، جلد ثانی، تحت تذکرہ ابی سفیان)

۲۔ (البدایہ، لابن کثیر، ص ۷۸، ج ۸، تحت ترجمہ معاویہ، ص ۵۶۰)

۳۔ (۱۔ تہذیب الاسماء واللغات، ص ۲۳۹، ج اول، طبع مصر، تحت ابی سفیان؟)

(۲۔ اسد الغابہ، لابن اثیر، ص ۲۱۶، جلد خامس، تحت ابی سفیان؟)

ایک قاعدہ

اسلام میں مسلمان کے اعمال کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ..... ” انما الاعمال بالخوا تيم ” یعنی آخری اعمال صالحہ کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اگر انجام کار عملی زندگی درست ہے تو خاتمہ بالخیر متصور ہوگا۔ اس مقام میں حضرت ابوسفیانؓ اسی کے مصداق ہیں۔ ان کا اعمال صالحہ پر خاتمہ بالخیر ہوا۔

حضرت ابوسفیانؓ سے روایت حدیث

اکابر علماء نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اقدس ﷺ سے احادیث نقل کی ہیں۔ پھر حضرت ابوسفیان سے دیگر صحابہ وغیرہ نے روایات ذکر کی ہیں۔ احادیث کی کتابوں پر جن کی نظر وسیع ہے، ان کے نزدیک یہ مسئلہ مسلمات میں سے ہے۔ یہاں چند ایک مرویات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

۱- بخاری شریف، کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ، (جلد اول) میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوسفیانؓ نے حدیث بیان کی کہ نبی اقدس ﷺ ہمیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے اور صلہ رحمی اور پاک دامنی کے متعلق ارشاد فرماتے تھے۔

۲- حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم اور امیر معاویہ نے ابوسفیانؓ

۱- بخاری شریف، جلد اول، ص ۱۸۷، باب وجوب الزکوٰۃ طبع نور محمد کراچی)

۲- کتاب الکنی للہ دلابی، ص ۳۳، ج اول، تحت ابی سفیان بن حرب)

سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۔ اسی طرح شارح مسلم شریف امام نوادی نے تہذیب الاسماء واللغات میں ذکر کیا ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہر نقل والی روایت منقول ہے۔ (جس میں ابوسفیانؓ نے ”اوصاف نبوت“ کی تصدیق کی تھی اور ہر نقل کے ساتھ ”مکالمہ“ پیش آیا تھا) یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جناب ابوسفیانؓ سے بلا واسطہ نقل کی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے اور پوری تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس مقام کو ملاحظہ کرنے سے ابوسفیانؓ کی نجابت اور شرافت خوب نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی یہ گفتگو ملک الروم ہرقل کے ساتھ اسلام لانے سے قبل صلح حدیبیہ کے دور کی ہے۔

حضرت ابوسفیان کے آخری اوقات

حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری عمر میں کچھ زمانہ تو مکہ شریف میں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف میں اقامت اختیار کر لی تھی اور مدینہ شریف میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے

۱۔ (۱) الاصابہ لابن حجر مع الاستیعاب، بزمائی، ص ۱۷۲ تا ۱۷۳، تحت عمر بن حرب

(۲) تہذیب التہذیب، لابن حجر، ص ۳۱۱، ج ۳، تحت عمر بن حرب

(۳) خلاصہ تہذیب التہذیب، الکمال للرحزنی، ص تحت عمر بن حرب طبع قدیم

۱۔ (۱) بخاری شریف، جلد اول، باب کیف کان بد الوجی، ص ۳، طبع دہلی

(۲) تہذیب الاسماء واللغات للنوادی، ص ۲۳۹، ج اول، تحت ابی سفیان بن حرب

(۳) اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ روایت بحوالہ بخاری و مسلم

سے (مشکوٰۃ شریف، ص ۵۲۶ تا ۵۲۵، باب علامات النبوة الفصل الثالث، طبع نور محمدی دہلی)

ایام تھے۔ مورخین نے ان کی وفات ۳۱ھ میں لکھی ہے۔ اگرچہ اور اقوال بھی ان کے سن وفات میں پائے جاتے ہیں بعض نے ۳۲ھ اور بعض نے ۳۴ھ تک ذکر کیا ہے۔ قول اول یعنی ۳۱ھ زیادہ مشہور ہے اور عام تذکرہ نویس اسی کو تحریر کرتے ہیں۔

شہادت کا ازالہ از بعض روایات

حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معترض لوگ مندرجہ ذیل روایت تلاش کر کے طعن قائم کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ:

”جس وقت صحابہ کرام کی تجویز سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس کے بعد ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ چھوٹے اور ذلیل قبیلے کا آدمی (یعنی ابوبکرؓ ابن ابی قحافہ) خلافت پر مسلط ہو گیا ہے۔ اگر تم کہو تو خلاف کرنے کے لیے سواروں اور پیادوں سے وادی کو بھر دو؟ تو حضرت علیؓ نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو سفیان تو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ”دشمن“ رہا ہے اور ”عداوت“ کرتا رہا ہے تیری یہ بات اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے ابوبکرؓ کو اس بات کا اہل سمجھا، اس لیے ہم نے بیعت کر لی۔ وغیرہ

ازالہ

یہ روایت کتابوں میں موجود ہے جیسا کہ دیگر بے اصل اور بے کار مواد

(۱- کتاب نسب قریش، ص ۱۲۲، تحت ولد حرب بن امیہ)

(۲- اسد الغابہ لابن اثیر، جز ثالث، ص ۱۲ تا ۱۳، تحت محرم بن حرب)

(۳- الاصابہ، ص ۱۷۳، ج ۲، تحت محرم بن حرب)

کتابوں میں پایا جاتا ہے (یہ ایک مرسل روایت ہے اور وہ بھی صحت کے درجہ میں نہیں پائی جاتی) اسی طرح اس روایت کا بھی وہی درجہ ہے اور اس پر ہمارے پاس قرائن اور شواہد ہیں جو عنقریب پیش خدمت کیے جا رہے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو سفیانؓ کے ساتھ عناد رکھنے والوں نے اس روایت سے جو مطاعن پیدا کیے ہیں، وہ مندرجہ ذیل شکل میں ناظرین کی خدمت میں رکھے جاسکتے ہیں:

- ۱- خاندانی و قبائلی عصبیت کا فروغ
- ۲- قبیلہ بنی تیم اور بنی ہاشم کے درمیان شر اور فساد کا احیاء اور قتال کا قیام۔
- ۳- اسلام اور اہل اسلام سے عناد اور عداوت۔
- ۴- منافرت اور نفاق کا ثبوت۔

مذکورہ روایت سے مندرجہ بالا اعتراضات تجویز کرنا معترضین کا اصل مقصد ہے تاکہ جناب ابو سفیانؓ کے وقار کو مجروح کیا جائے اور ان کے مقام کو گرایا جاسکے۔
اب ہم اس طعن کے جواب کے لیے فن روایت کی حیثیت سے مختصر سا کلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد درایت کے اعتبار سے معروضات پیش کریں گے۔ بہ نظر انصاف انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ روایت مذکورہ کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنا پھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔

قابل اعتراض روایت کے متعلق ذیل میں پہلے روایت کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درایت کے اعتبار سے بحث ذکر کی جائے گی۔ (بعونہ تعالیٰ)

روایتاً بحث:

۱- ایک عام جستجو کے مطابق یہ روایت عموماً مرسل شکل میں دستیاب ہوتی

ہے۔ وہ بھی ثقات کی مرسل نہیں ہے بلکہ بعض مقامات میں مجہول الحال اور مجہول
 اکیفیت لوگ ناقل ہیں اور بعض اسانید میں مجروح اور مقدوح رداۃ پائے جاتے
 ہیں۔

اور کئی مقامات میں اس روایت میں واضح انقطاع پایا جاتا ہے اور ان
 روایات میں الفاظ و کلمات کا تفاوت اور تخالف و تعارض بہت پایا جاتا ہے جو اصل
 واقعہ کی صحت کو مشتبہ کر دینے کے لیے ایک مستقل قرینہ ہے۔

درحقیقت اس مرسل کو نقل کرنے والے واقعہ ہذا میں بذات خود موجود
 نہیں ہیں اور نہ ہی ناقلین نے ان ہردو بزرگوں (حضرت علی المرتضیٰؑ اور حضرت ابو
 سفیانؓ) سے بیعت کا یہ متعلقہ کلام خود سنا ہے۔

اگر بالفرض اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ روایت منکر کے درجہ میں
 ہے یا شاذ ہے اور بعض اسانید کے اعتبار سے منقطع ہے۔ مختصر یہ ہے کہ واقعہ ہذا کا
 صحیح متصل السند کے ذریعے ثابت ہونا مشکل امر ہے۔

تنبیہ:

کبار علماء کرام نے اس مقام میں حضرت ابو سفیانؓ کے خلاف مجروح و
 مقدوح روایات کے متعلق ہدایت فرماتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ:

۱۔ لہ اخبار من نحو ہذا ردیہ۔

یعنی اس قسم کی روایات جو ابو سفیانؓ کے متعلق دستیاب ہوتی ہیں وہ بے
 کار اور بے اصل ہیں۔

۲۔ اسی طرح ابن اثیر الجزری نے اسد الغابہ، ص ۲۱۶، جلد خامس میں
 ابو سفیانؓ کے ترجمہ کے تحت نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

لہ (الاستیعاب معہ الاصابہ، ص ۸۸، جلد رابع، تحت تذکرہ ابی سفیان، طبع مصر)

نقل عنه من هذا الحسن اشياء كثيره لاتثبت
یعنی اس قسم کی کئی چیزیں حضرت ابوسفیانؓ کے متعلق نقل کی جاتی ہیں جوئی
الواقع ثابت نہیں ہیں بلکہ بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔

قواعد و ضوابط:

اس مقام میں کبار علماء کی طرف سے چند چیزیں بطور ضابطہ یہاں درج کی
جاتی ہیں، جنہیں روایات کی بحث میں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

(۱)

نبی اقدس ﷺ کی توقیر اور احترام میں سے یہ بات ہے کہ آنجناب کے
اصحاب کی توقیر ملحوظ رکھنی چاہیے اور ان کی اچھائی اور ان کے حقوق کی معرفت کو
پیش نظر رکھا جائے۔ ان کی اقتداء کی جائے، ان کے حق میں ثنائے خیر بیان کی جائے
اور ان کے لیے ہمیشہ استغفار کیا جائے۔ ان میں جو اختلاف اور نزاع ہوا ہے، اس
سے زبان کو روکا جائے اور جو لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے مخالفت رکھی
جائے اور اصحاب تاریخ کے اقوال اور مورخین کے اخبار سے اعراض اور
روگردانی کی جائے۔ جاہل راویوں اور حکایات کے ناقلین سے منہ موڑا جائے۔ جو
بھگ جانے والے شیعہ اور بدعتی ہیں، جب کہ کسی ایک صحابی کے حق میں بھی قدح
کرنے والے ہوں۔ (الخ)

ومن توقیره وبرہ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر
اصحابہ وبرہم ومعرفہ حقہم والافتداء بہم و
حسن الثناء علیہم والاستغفار لہم والامساک
عما شجر بینہم ومعاداہ من عاداہم والاضراب

عن اخبار المورخين وجهله رواه وضلال الشيعة
والمبتدعين القادحة في احد منهم (الخ)

(۲)

اور علماء نے لکھا ہے کہ خبر واحد میں اگر ایسی چیز پائی جائے جو عقل و نقل کے برخلاف ہو، کتاب و سنت مشہورہ کے منافی ہو اور سنت کے قائم مقام جو فعل جاری ہے، اس کے متضاد ہو اور یقینی دلائل سے متعارض ہو، ایسی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

ولا يقبل خبر الواحد في منافاه حكم العقل و
حكم القران الثابت المحكم و السنه
المعلومه و الفعل الجارى مجرى السنه و كل
دليل مقطوع به (الخ)

اسی طرح جو روایت عقل اور اصول شرعی کے معارض ہونے کے ساتھ ساتھ حس اور مشاہدہ کے خلاف ہو اور عادت جاریہ کے برعکس ہو، وہ علماء کے

۱۔ الشفاء بتعريف، حقوق المصطفى للقاضي عياض، ص ۳۹ تا ۵۰، جلد ثانی، طبع مصر، تحت فصل ومن توقيره و بره توقيرا صحابه (الخ)

۲۔ نسيم الرياض شرح الشفاء للحنافى ص ۳۶۶ تا ۳۶۷، جلد ثالث تحت فصل مذکور

۳۔ شرح الشفاء للعلی القاری، جلد ثانی، ص ۸۸ تا ۸۹، تحت فصل مذکورہ

۴۔ کتاب الکفایہ للطیب بغدادی، ص ۳۳۲، باب ذکر ما قبل فیہ خبر الواحد مالا۔ قبل فیہ، طبع حیدرآباد دکن

نزدیک بے سرو پا شمار کی جاتی ہے۔

مذکورہ طعن والی روایت کا اصول شرعی کے خلاف ہونا اور عقل و نقل کے برخلاف ہونا پیش کردہ مواد ملاحظہ کرنے کے بعد قارئین کرام پر خوب واضح ہو سکے گا۔

(۳)

طعن کنندہ کے لیے تادیبی کارروائی

نیز ابن تیمیہ نے اپنی تصنیف ”الصارم المسلول“ میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر چار خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد تمام امت سے بہتر نبی کریم ﷺ کے اصحاب کرام ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کی برائیوں کا ذکر کرے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی عیب اور نقص کی وجہ سے ان میں کسی ایک پر بھی طعن کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا، اس کی تادیب کرنی اور اسے سزا دینا واجب ہے اور اس کو معاف نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔

و ہم خلفاء راشدون مہدیون ثم اصحاب
رسول اللہ ﷺ بعد ہولاء الاربعہ خیر الناس لا
يجوز لاحد ان يذکر شيئا من مساويهم ولا يطعن
على احد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك

لے (۱)۔ فتح المغیث للخواصی شرح الفیتہ الحدیث للعراقی، جز اول، ص ۲۵۱، ۲۵۰، طبع جدید، مدینہ منورہ، تحت بحث الموضوع

(۲)۔ تزیہ الشریعہ لابن عراق الکفانی ص ۶، جلد اول، فصل فی حقیقۃ الموضوع ومارتہ و مکرمہ۔
طبع مصر

فقہ و جب تادیبہ و عقوبتہ - (الخ) لے

دیگر طریقہ:

اور فن روایت کے اکابر علماء ایک تصریح ذکر کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بے اصل روایت کو عمدہ سند کے ساتھ چلا دیتے ہیں تاکہ سند کی صحت دیکھ کر لوگ اسے تسلیم کر لیں۔ واقعہ میں روایت بے سرو پا ہوتی ہے۔ اس کو مقبول بنانے کے لیے یہ حیلہ کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوسفیانؓ والے مذکور واقعہ میں اگر بالفرض عمدہ سند پائی جائے تو وہاں بھی یہی صورت کار فرما ہوگی۔ ناظرین اس طریقہ کار سے باخبر رہیں۔
مسئلہ بڑا کی خاطر حوالہ درج ذیل ہے:

فانه لا يلزم من صحة الاسناد صحة المتن كما
تقرر في علوم الحديث لاحتمال ان يصح
الاسناد ويكون في المتن شذوذ او عله تمنع
صحته واذ تبين ضعف الحديث اغنى ذلك عن
تاويله لان مثل هذا المقام لا تقبل فيه الاحاديث
الضعيفه (الخ)

لے (الصارم المسلول، علی شاتم الرسول ﷺ ص ۵۷۳، تحت فصل فی حکم سب اصحابہ و سب اہل بیتہ۔ طبع اول، حیدرآباد، دکن)

لے (۱- الحدادی للفتاویٰ، ص ۱۸، ج ۲، تحت بذالبحث از علامہ سیوطی)

(۲- الفتاویٰ الحدیثیہ، ص ۱۶۵، تحت مطالب فی قول اللہ تعالیٰ و من الارض مثلہن

بتنزل الامر ینہن لابن حجر المکی البیتھی، ۹۷۳ھ یا ۹۷۵ھ)

درایتہ بحث

حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو طعن واقعہ بیعت کی گفتگو سے مرتب کیا جاتا ہے، اس کو درایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل ہی بے وزن معلوم ہوتا ہے۔

مندرجہ ذیل اشیاء پر غور فرمائیے، جن کو سابقہ متعدد عنوانات کی صورت میں درج کیا گیا ہے اور حوالہ جات ساتھ تحریر کر دیے گئے ہیں:

- ۱- حضرت ابو سفیانؓ اسلام لائے اور ان کا اسلام منظور و مقبول ہوا۔
- ۲- ان کا سرور کائناتؐ کے ساتھ رشتہ نسب ہے۔ یعنی ام المومنین ام حبیبہؓ کے والد شریف ہیں۔
- ۳- ان کی حضرت عباسؓ کے ساتھ قدیم سے ہم نشینی و مصاحبت تھی اور یہ تعلق تازیت قائم رہا۔
- ۴- فتح مکہ میں ”دخول دار“ کی خوشخبری بھی ان کو حاصل ہے۔
- ۵- غزوات میں شرکت (حنین و طائف میں) نصیب ہوئی اور ایک آنکھ کی قربانی پیش کی اور جنت کی بشارت ملی اور جنگ یرموک میں دوسری آنکھ کی قربانی پیش کر کے نایاب ہو گئے۔
- ۶- بت شکنی کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔
- ۷- قرض اتارنے کے لیے ان کو تجویز فرمایا گیا۔
- ۸- تقسیم مال کے لیے ان کا تعین ہوا۔
- ۹- ان کے ساتھ ہدایا میں تبادلہ فرمایا گیا۔
- ۱۰- معاہدہ اہل نجران میں ان کو شاہد رکھا گیا۔
- ۱۱- یہاں سے نجران کے صدقات پر ان کو حاکم و والی مقرر فرمایا گیا اور ارتحال

نبوی تک اس عمدہ پرفائزر ہے۔

مندرجہ بالا امور دور نبوت میں پیش آئے اور سید الکوین رضی اللہ عنہ کے فرمان اور رضا کے تحت پیش آئے۔

۱۲۔ بعد ازاں مرتدین کے ساتھ قتال کرنے میں سبقت کی۔

فلذا ثابت ہوا کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق الایمان دیانت و امانت دار اور ”مخلص مسلمان“ تھے۔ ”خاندانی“ اور ”قبائلی عصیت“ ان میں نہ تھی۔ اسلام اور اہل اسلام کے مخلص معاون اور سچے خادم تھے۔ کسی صحیح روایت کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ عداوت پر دال کوئی فعل یا قول ان سے سرزد نہیں ہوا۔ نیز مندرجہ بالا تمام چیزیں ان کے ”اخلاص دین“ پر شاہد ہیں۔ ان حالات میں منافقت اور نفاق کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مختصر یہ ہے کہ معتزمین کی طرف سے سابقہ روایت حضرت علیؓ کی طرف منسوب کر کے پیش کی گئی ہے، وہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ اور واقعات کے برخلاف ہے۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو گرانے کے لیے اس نوع کے واقعات مرتب کیے گئے ہیں۔

”نیز اسی طرح اگر بالفرض جناب ابوسفیانؓ پر وارد کردہ اعتراضات کی دیگر روایات کو بھی درست تسلیم کر لیا جائے تو ان روایات کے تقاضوں کے مطابق گویا ابوسفیانؓ پر اسلامی تعلیمات کا کچھ اثر نہیں ہوا، جاہلیت کا رنگ ان کی طبیعت سے قطعاً زائل نہیں ہوا اور کفر کا تعصب اور کینہ ان کے سینہ سے خارج نہیں ہوا۔

حالانکہ یہ چیز حالات و واقعات صحیحہ کے برعکس اور قطعی طور پر باطل ہے اور اس کے بطلان پر مندرجہ مذکورہ بالا ۱۱-۱۲ عدد واقعات ایک ایک کر کے شاہد عادل ہیں۔ ان پر دوبارہ نظر غائر فرما کر اس چیز کا فیصلہ خود فرمائیں۔ (مولف)

قابل غور امر

بالفرض اگر ابوسفیانؑ میں اسلام راسخ نہ تھا اور قبائلی و خاندان عصیت ان میں غالب تھی، اس وجہ سے انہوں نے صدیق اکبرؐ کے خلاف حضرت علیؑ کو جا کر ابھارا اور براہ کینتہ کرنے کی سعی کی۔

اگر معترض کا یہ تخیل صحیح ہے تو غور کرنے کی یہ چیز ہے کہ ابوسفیانؑ کو اپنے قبیلہ کے عظیم فرد اور سربر آوردہ شخصیت (حضرت عثمان بن عفانؓ) کے پاس جا کر ان کو ”منصب خلافت“ کے حصول کے لیے آمادہ کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کا قبیلہ باقی قبائل پر فوقیت و برتری حاصل کر سکے۔ قبیلہ بنو ہاشم کے ایک فرد حضرت علیؑ کو اکسانے سے ابوسفیانؑ کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ایک صاحب فہم و دانش مند انسان واقعہ مذکورہ کے بے بنیاد ہونے کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ صرف تعصب سے الگ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح منہج پر معاملہ فہمی کی جاسکے۔

بعض عبارات

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض لوگوں کی عبارات موہم اور شبہ پیدا کرنے والی پائی جاتی ہیں۔ ان کے صاف کرنے کے لیے جو مواد حضرت ابوسفیانؑ کے متعلق سا.قا ذکر کر دیا ہے، وہ کافی ہے۔ تاہم مشتبہ عبارات سے اشتباہ کو دور کرنے کے لیے چند کلمات ذکر کیے جاتے ہیں۔

مثلاً بعض مواضع میں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر بعض حضرات مشورہ کر رہے تھے اور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اپنی چٹری پر ٹیک لگاتے ہوئے وہاں پہنچے اور السلام علیکم فرمایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ”آپ ہمارے قریب نہ آئیں“ ان الفاظ کی بناء پر معترض کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوسفیانؑ کو قابل اعتماد نہ سمجھا اور متم قرار دیا۔ اس وجہ سے کہ ان کا

اسلام اچھا نہیں تھا۔“

الجواب

مقترض کی عبارت دیکھ کر ناظرین کرام ہرگز پریشان نہ ہوں۔ یہ اعتراض محض نقش بر آب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل چند ایک چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ جس مقام پر جملہ بالاند کو ر..... ہے، آگے وہاں یہ چیز بھی درج ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔ چنانچہ حضرت ابوسفیانؓ نے وہاں تشریف لا کر اپنا مفصل جنگی مشورہ ذکر کیا۔ فقبلوا ذلک من رای ابی سفیان لعلمہم بانہ قد نصحہم یعنی حضرت ابوسفیانؓ کا پیش کیا ہوا جنگی مشورہ ان حضرات نے قبول کر لیا۔ اس لیے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت ابوسفیانؓ نے ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا ہے۔

یہ چیز اہتمام کی علامت نہیں۔ بلکہ حضرت ابوسفیانؓ پر مکمل اعتماد کی بین دلیل ہے۔

۲۔ جملہ سابقہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ حضرات کسی دوسرے معاملے میں مصروف گفتگو تھے۔ اس معاملہ سے فارغ ہونے تک کے لیے کہا گیا ہے کہ ٹھہر جائیے۔ جب وہ بات ختم ہو گئی تو حضرت ابوسفیانؓ کے ساتھ مکالمہ شروع ہوا۔ اس توجیہ کی تائید کتاب کی آئندہ سطور میں پائی جاتی ہے۔

جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حضرت ابوسفیانؓ سے مشورہ طلب کیا گیا اور ان کے مشورہ کو ان لوگوں نے بطیب خاطر قبول کیا۔

۳- مزید بر آں یہ چیز بھی ممکن ہے کہ جملہ سابقہ کی تعبیر ان مذکورہ الفاظ کے ساتھ نقل کرنے والے کی طرف سے ہو۔ اس موقع کے اصل الفاظ دوسرے ہوں اور ممبر نے اپنی طرف سے تعبیر ایسے الفاظ سے کر دی ہو جو اب قابل اعتراض سمجھے جاتے ہیں۔

۴- حضرت ابوسفیانؓ کے متعلق سا.قا.ہم نے چند چیزیں ذکر کی ہیں۔ وہ ان کے ”حسن اسلام“ اور ”اخلاص دین“ پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ کے دور میں جنگ یرموک کے موقع پر ابوسفیانؓ نے جو پر خلوص کردار ادا کیا، وہ نہایت قابل ستائش ہے۔ مثلاً:

(i) جنگ یرموک میں پر خلوص مساعی اور جنگی مشورہ دینا۔

(ii) منصب ”القاص“ پر فائز ہونا۔

(iii) ایمان افروز خطبات دینا۔

(iv) اپنے بیٹے کو وصایائے استقامت کرنا۔

(v) چشم دیگر کی قربانی دینا۔

(vi) جنگ یرموک میں تمام گھرانے (باپ، بیٹے، بیوی، لڑکی اور داماد) کا شامل ہونا وغیرہ وغیرہ۔

نیز حضرت ابوسفیانؓ سے صحابہ کرامؓ کا حدیث روایت کرنا ان کی دیانت پر اعتماد کرنے کو واضح کرتا ہے۔

مزید بر آں ان کے ”آثار محمودہ“ کے متعلق اکابر علماء کی تصدیق جناب ابوسفیانؓ کے ”حسن اسلام“ کا بین ثبوت ہے۔ (حوالہ جات سا.قا.گزر چکے ہیں۔ انما العبرہ للخوا تیم۔

حقائق مندرجہ بالا کے بعد اب کسی شخص کے موہم الفاظ اور مشتبہ عبارات

ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے ”کمال اخلاص“ میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔
 مختصر یہ ہے کہ مالک کریم نے اگر آپ کو صحیح فہم بخشا ہے اور صحابہ کرام
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے دل میں زلیغ نہیں ہے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ
 کی دیانت، امانت، اخلاص، کمال ایمان روز روشن کی طرح نظر آئے گا اور بچوں
 قسم وارد کردہ اعتراضات بے بنیاد اور بے جا معلوم ہوں گے۔

ازواج و اولاد جناب ابی سفیانؓ

حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج اور اولاد کا اجملاً تذکرہ
 یہاں مفید سمجھا گیا ہے۔ لہذا علی سبیل الاختصار درج ذیل ہے۔
 عہد سابق کے قبائلی رواج اور اس دور کے معاشرتی احوال کے موافق
 لوگ متعدد ازواج کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بھی
 متعدد ازواج تاریخ میں مذکور ہیں۔

۱- صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ: یہ حضرت عثمانؓ بن عفان کی پھوپھی
 تھیں۔ ان سے حضرت ابو سفیانؓ کا بیٹا حنظلہ ہوا، جس کی اولاد نہیں چل سکی اور بیٹی
 رملہ بنت ابی سفیان (ام المومنین ام حبیبہؓ) اور دوسری بیٹی امیہ بنت ابی سفیان
 بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئیں۔

۲- ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس: ان سے مندرجہ ذیل اولاد
 متولد ہوئی:

فرزند امیر معاویہ اور عتبہ بن ابی سفیان اور بیٹیاں جویریہ اور ام الحکم بنت
 ابی سفیان۔

۳- زینب بنت نوفل بن خلف: ان سے بیٹا یزید بن ابی سفیان ہوا جو اسلام میں مشہور باکمال شخصیت ہے اور یزید الخیر کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

۴- صفیہ بنت ابی عمرو بن امیہ: اس سے ایک بیٹا عمرو بن ابی سفیان اور دو بیٹیاں محرّۃ بنت ابی سفیان اور ہند بنت ابی سفیان مذکور ہیں۔

لبابہ بنت ابی العاص بن امیہ: ان سے ایک بیٹی میمونہ بنت ابی سفیان معروف ہے۔

نیز حضرت ابو سفیانؓ کا ایک بیٹا عبسہ بن ابی سفیان بھی بعض مقامات میں مذکور ہے۔

تنبیہ: مندرجہ بالا مختصرات کتاب ”نسب قریش“ از معب الزبیری (تحت ولد ابی سفیان) سے نقل کیے گئے ہیں۔ مزید احوال دیگر کتب تاریخ سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔

تذکرہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی براہ راست فیض یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور ان میں علی فرق المراتب بے شمار شخصیتیں اور باکمال ہستیاں موجود ہیں۔

اس جماعت کا فضل و کمال خداوند کریم نے اپنی مقدس کتاب میں جا بجا کر فرمایا ہے اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی فضیلتیں بے حساب مذکور ہیں۔ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں اور ان کا نصب العین اشاعت دین تھا۔

اس مقدس جماعت کے مرد و زن امور دین کے لیے شب و روز مصروف کار رہتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب، ام حرام بنت ملحان، ام عمارہ رضی اللہ عنہا انصاریہ اور اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید انصاریہ (جن کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا انصاریہ کہتے ہیں) وغیرہ خواتین نے اسلامی خدمات کی خاطر بڑا عمدہ کردار ادا کیا اور اضطراری حالات میں معاونت کی خاطر مسلمان مردوں کے ساتھ جنگوں میں بھی شمولیت کی۔

اسی طرح دینی ضرورتوں کے لیے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی امتیازی خدمات سرانجام دیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تذکرہ کے بعد آئندہ سطور میں حضرت ہند بنت عتبہ کے مختصر سے حالات تحریر کیے جاتے ہیں کیونکہ بعض لوگ ان

پر بھی ناروا اعتراضات قائم کرتے ہیں اور ان کو ہنگ آمیز و نازیبا کلمات کے ساتھ یاد کرتے ہیں جو سراسر ناانصافی پر مبنی ہیں۔ ان کا یہاں تذکرہ کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ان پر وارد کردہ بے جا اعتراضات کا حتی المقدور جواب ہو جائے اور ان کو خواتین اسلام میں جو مقام حاصل ہے وہ واضح ہو سکے اور ترویج دین کے لیے جو ان کی مساعی ہیں وہ عوام اہل اسلام کو نمایاں طور پر معلوم ہو سکیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعن کل الصحابہ اجمعین۔

نسبی تشریحات اور قبیلہ قریش میں ان کا مقام

ان کا نام ہند بنت عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہؓ کی والدہ ہیں۔

حضرت ابوسفیانؓ کی متعدد ازواج تھیں۔ ان میں ہند بنت عقبہ بن ربیعہؓ مشہور اور معروف اور ایک امتیازی مقام کی حامل خاتون ہیں۔ ہندؓ کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعم و فراست اور اہلیت بخشی تھی۔ مورخین نے ان کے متعلق مندرجہ ذیل صفات ذکر کی ہیں۔

..... وکانت من سیدات نساء قریش ذات رای
ودہاء وریاسہ فی قومہا۔

اور علماء نے مزید ان کے حق میں یہ الفاظ بھی تحریر کیے ہیں کہ:

..... وکانت امراہ لہا نفس وانفہ ورای وعقل۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہندؓ قریش کی سردار عورتوں میں سے تھیں، صاحب رائے، زیرک و ہوشمند، خوددار اور بڑی عقل مند عورت تھیں۔ اپنی قوم میں

اپنی صنف کے لیے رہیں سمجھی جاتی تھیں۔

قبول اسلام اور پھر اس پر استقامت

قبول اسلام سے پہلے ہند بنت عقبہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ بڑی عداوت رکھتی تھیں جس طرح ان کے خاوند ابوسفیانؓ نے اسلام لانے سے قبل اہل اسلام کے ساتھ بڑے مقابلے اور معارضے قائم کیے، اسی طرح ان کی اہلیہ مذکورہ نے ہر مرحلہ پر مسلمانوں کے ساتھ انتہائی عناد اور مخالفت قائم رکھی۔ خصوصاً جنگ احد میں حضرت امیر حمزہؓ کے ساتھ جو ظالمانہ اور سفاکانہ رویہ اختیار کیا تھا، وہ تاریخ کے وقائع میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کا رخ بدلا ہے اور فتح مکہ ہوئی ہے تو اس موقع پر اپنے خاوند کے اسلام لانے کے ایک دن بعد ہند بنت عقبہ اسلام لائی ہیں اور سردار دو عالم ﷺ نے ان دونوں کو اپنے سابق نکاح پر قائم رکھا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت انسان اسلام لے آئے تو گزشتہ چیزیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ (ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ) اس آئین اسلامی کی رو سے ہند بنت عقبہ کی بھی سب سابقہ غلطیاں معاف ہو گئیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہند بنت عقبہ اپنے دین پر نہایت مستقیم تھیں اور ان کا اسلام نہایت پختہ تھا۔ علامہ ابن اثیر جزیری نے ”اسد الغابہ“ میں، علامہ نوادی نے ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں اور علامہ ابن کثیر نے ”البدایہ“ جلد سابع میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ان کے ”حسن اسلام“ کی تصدیق فرمائی ہے:

(۱) ”البدایہ والنہایہ“ جلد سابع، ص ۵۱، تحت ۵۱۳

(۲) ”اسد الغابہ للجزیری“ ص ۵۶۲، ج ۵، تحت ہند بنت عقبہ بن ربیعہ۔

(۳) ”الاکمال فی اسماء الرجال صاحب المکتوبہ“ ص ۶۲۳، تحت فصل فی الصحابیات۔ (ہند بنت عقبہ)

”ان ہندا اسلمت یوم الفتح وحسن اسلامها۔
 ہی ام معاویہ بن ابی سفیان اسلمت فی الفتح
 بعد اسلام زوجها ابی سفیان بلیلہ وحسن
 اسلامها“۔ (رضی اللہ عنہما)

(۱)

بعد از قبول اسلام بت شکنی کا عجیب واقعہ

مورخین اور محدثین نے اس موقع پر ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ جب حضرت ہند بنت عتبہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکیں تو ان کے گھر میں ایک بت تھا، جس کی جاہلیت کے دور میں پرستش کرتی تھیں، اس کو ایک کھاڑا لے کر پاش پاش کر دیا۔ ساتھ ساتھ فرماتی تھیں کہ تیری وجہ سے ہم دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے اور فریب خوردہ تھے۔

لما اسلمت ہند جعلت تضرب صنما فی بیتها
 بالقدوم فلزته فلزہ فلزہ وہی تقول کنا منک فی

۱) ”اسد الغابہ للبخاری“ ص ۵۶۲، ج ۵، تحت ہند بنت عتبہ،

۲) ”تہذیب الاسماء واللغات للتوادری“ ص ۳۵۷، جز ثانی، تحت حرف الراء (ہند بنت عتبہ)

۳) ”البدایہ والنہایہ“ لابن کثیر، ص ۵۱، ج ۷، تحت ۱۴، طبع اول مصری

۴) ”الاکمال فی اسماء الرجال“ ص ۶۲۳، تحت ہند بنت عتبہ لصاحب المکتوۃ فصل فی

غرور سے

تنبیہ

حضرت ہند بنت عقبہ کے قبول اسلام سے قبل ان کو قدرت کی طرف سے ایک خواب متواتر تین شب آتا رہا۔
اس کے بعد آپؐ اس خواب کی روشنی میں مشرف بہ اسلام ہوئیں۔
خواب کا یہ واقعہ مسند عمرو بن عبد العزیز، ص ۱۳، طبع قدیم ملتان سے اخذ کر کے اپنی تالیف ”سیرۃ سیدنا امیر معاویہ“ میں ان کی والدہ کے حالات کے تحت ذکر کیا ہے۔
تفصیلات کے لیے وہاں رجوع کریں۔

(۲)

تشریف بیعت اور کلمہ ”مرحبا“ کا اعزاز

فتح مکہ کے بعد سردار دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں مکہ کی اور قریش کی عورتیں حاضر خدمت ہوتی تھیں اور جناب ﷺ کی خدمت میں بیعت نبویؐ کا شرف حاصل کرنے کے لیے معروضات پیش کرتی تھیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو سفیانؓ کی بیوی ہند بنت عقبہ بن ربیعہ (جو اپنے قبیلے کی ایک معزز خاتون تھیں) اپنے خاوند کی اجازت سے جناب ﷺ کی خدمت میں نقاب پہن کر حاضر

ہے (۱) کتاب ”اللبقات الکبیر لابن سعد“ ص ۱۷۲، ج ۸، تحت ہند بنت عقبہ بن ربیعہ
(۲) ”تہذیب النساء واللغات للنواوی“ ص ۳۵۷، ج ۲، ج ۲، ثانی، تحت حرف الہاء (ہند

بنت عقبہ)

(۳) ”تاریخ ابن عساکر“ ص ۳۵۶، جلد ۱، (تراجم النساء) تحت ہند بنت عقبہ۔ طبع دمشق

(۴) ”تطییر الجنان“ لابن حجر المکی، ص ۹، آخر فصل الاول (مع الصواعق المحرقة)

ہوئیں۔ سابقہ احوال کے پیش نظر وہ اپنی جگہ پر بہت خائف تھیں کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور میرے حق میں کیا حکم صادر ہوگا۔ ”طبقات ابن سعد“ میں ہے کہ عورتوں کی بیعت کے لیے حاضری ”داوی الطح“ میں ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں جب ہند بنت عتبہ بن ربیعہ حاضر ہوئیں اور جناب ﷺ کی خدمت اقدس میں معروضات پیش کرنے لگیں تو نقاب کھول دیا اور گفتگو شروع کی اور اپنا نام لے کر عرض کرنے لگیں کہ میں ہند بنت عتبہ حاضر ہوں۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے پہچان لیا اور فرمایا ”مرحبا بک“ (خوش آمدید) ان مبارک الفاظ کے ساتھ باریابی کی عزت بخشی۔

(”طبقات ابن سعد“ ص ۱۷۱ تا ۱۷۲، ج ۸، تحت ذکر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ)

فائدہ: فتح مکہ کے موقع پر مختلف قبائل قریش نے بیٹھا عورتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئیں۔ ان میں بنی عبد شمس میں سے ہند بنت عتبہ اپنے قبیلہ کی مشہور خاتون تھیں۔ آنجناب نے ان کا اسلام قبول فرمایا۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ بھی مذکور ہے کہ ہند بنت عتبہ نے ازراہ معذرت جناب کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا نبی اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا ہے ہم کو بھی گزشتہ واقعات کی معافی فرمائی جائے (تفسیر البحر المحیط، ص ۲۵۸، ج ۸، تحت الایتہ) پھر آنجناب نے سابقہ خطاؤں اور عداوتوں کے پیش نظر کوئی سرزنش اور تہدید نہیں فرمائی بلکہ ہند بنت عتبہ اور اس کے زوج حضرت ابوسفیان دونوں کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی بنا پر اخلاص اور دوستی و محبت کا اظہار فرمایا اور آپ کا یہ مشفقانہ رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہا۔ اس چیز کو علماء نے مندرجہ ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

فان اباسفیان و امراتہ لما اسلما لم یکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیفہما بل
اظہر الصفاء والود لہما و کذا لک کان الامر من
جانبہ علیہ السلام لہما (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

تفسیر ابن کثیر الجزء الرابع، ص ۳۵۳، تحت الآیۃ بیعت النساء، آخر سورۃ ممتحنہ

ان تصریحات کی روشنی میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان دونوں زوجین کو جب
سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت و عنایات سے نوازا ہے تو ان کے
حق میں ہتک آمیز جملے اور نازیبا کلمات استعمال کرنا مناسب نہیں ہیں۔ (منہ)

(۳)

موقع ہذا کی گفتگو اور اظہار مودت

اس کے بعد ”بخاری شریف“ کی روایت اور اس کے شروع کے مطابق
مندرجہ ذیل گفتگو اس موقع پر ہوئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز ہند بنت عتبہ آئیں اور عرض
کرنے لگیں، ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ﷺ) آج سے پہلے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جو
میرے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ ذلیل اور ناپسند ہو مگر آج صفحہ ہستی پر کوئی ایسا
گھرانہ نہیں جو میرے نزدیک جناب کے خانہ مبارک سے زیادہ محبوب اور معزز ہو۔
تو اس کے جواب میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اور
حلف کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ تو ابھی اس بات میں بڑھے گی یعنی
تیرے قلب میں ایمان و یقین جاگزیں ہو گا اور تیری محبت اللہ اور اس کے رسول کے
حق میں مزید ہو گی اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے تو پوری طرح اعراض کرے گی اور
نفرت و عداوت سے رجوع کر لے گی۔ قال وایضا والذی نفسی

بیدہ... الخ لے

یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ہندؓ راست گو خاتون تھیں اور نیز واضح ہوا کہ ان کو آنجناب ﷺ کے ساتھ قلبی محبت تھی اور آنجناب ﷺ بھی ان کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک فرماتے تھے۔

(۴)

واقعہ بیعت النساء اور ہند بنت عتبہ کی معروضات

جب فتح مکہ ہو چکی تو سردار دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں اسلام لانے کے بعد قریش مکہ کی عورتیں متعدد بار بیعت کے لیے یکے بعد دیگرے حاضر ہوئیں اور قرآن مجید کی آیت جو سورۃ ممتحنہ کے آخر میں ہے، ان ایام میں نازل ہو چکی تھی۔

يا ايها النبي اذا جاءك المومنات يبايعنك
على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين
ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين
ايدهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف

لے (۱) ”یعنی شرح بخاری شریف“ ص ۲۸۳، ج ۱۶، کتاب ”النائب“ باب ذکر ہند بنت عتبہ

(۲) ”فتح الباری شرح بخاری“ ص ۱۱۲، ج ۷، کتاب ”النائب“ باب ذکر ہند بنت عتبہ

(۳) ”ارشاد الساری شرح بخاری“ للقسطانی، ص ۱۷۱، ج ۷

(۴) ”شرح مسلم“ للتواری، ص ۷۵، ج ۲، کتاب ”الاقضیہ“ باب قضیہ ہند بنت عتبہ

(۵) ”البدایہ“ لابن کثیر، ص ۱۲۳، ج ۸، تحت ”مناقب معاویہ“

فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم -
(آخر سورة الممتحنة، پارہ نمبر ۲۸)

ترجمہ: ”اے نبی (ﷺ) جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی اور چوری نہ کریں گی اور زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، نہ کوئی بہتان کی اولاد لادیں گی، جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لیں اور کسی مشروع بات میں آپ کے خلاف نہ کریں گی تو ان کو بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگئے۔ ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔“

(”تفسیر حقانی“ وغیرہم تحت الایہ)

اس موقع پر دیگر خواتین کے ساتھ ہند بنت عتبہ بھی حاضر خدمت ہوئیں اور قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے مطابق بیعت کی شرائط ان کے سامنے آئیں تو پہلی شرط یہ تھی کہ ان لایشرکن باللہ شیئاً (اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی۔)

اس وقت ہند بنت عتبہ نے عرض کیا کہ (کیف نطمع ان تقبل منا مالک تقبلہ من الرجال) ہم اس بات کا کس طرح طمع کر سکتی ہیں۔ جو چیز آپ نے مردوں سے قبول نہیں کی وہ ہم سے قبول کر لی جائے گی یعنی جب ”شرک کرنا“ مردوں کے لیے جائز نہیں رکھا گیا تو ہمیں اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم شرک کے نزدیک نہیں جائیں گی اور اس سے دور رہیں

گیلے

پھر جناب نبی کریم ﷺ نے سرقہ نہ کرنے کی دوسری شرط جب پیش فرمائی تو ہند بنت عتبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے خاوند ابو سفیانؓ مال کو روک رکھنے والے ہیں اور جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کفایت نہیں کرتا۔ تو کیا مجھے اپنے خاوند کے مال سے بقدر ضرورت لے لینا حلال ہے؟ حضرت ابو سفیانؓ پاس موجود تھے، یہ بات سن کر انہوں نے جناب کی خدمت میں عرض کی کہ جو کچھ مال اس نے سابقاً لیا ہے یا اب لے گی وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کی اسے اجازت ہے۔

سردار دو عالم ﷺ نے ان دونوں کا کلام سماعت فرما کر تبسم فرمایا اور بعض روایات کے اعتبار سے ہند بنت عتبہ کے اس مطالبہ پر خود سردار دو عالم ﷺ نے بقدر کفایت مال لینے کی ہند کو خصوصی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر یہ شرط پیش ہوئی کہ عورتیں بدکاری نہیں کریں گی تو اس پر ہند نے بطور استعجاب عرض کیا کہ آیا آزاد شریف عورت بھی ایسا کام کرتی ہے؟

اس کے بعد یہ شرط پیش فرمائی گئی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، تو ہند نے عجیب و بلیغ کلام کے ساتھ عرض خدمت اقدس کیا کہ ہم نے اپنی چھوٹی اولاد کو پرورش کر کے بڑا کیا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ لوگوں نے ان کو میدان بدر میں قتل کر ڈالا۔ (حضرت ابو سفیانؓ کا لڑکا حنظلہ بدر کے دن مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا

لے (۱) "تفسیر البحر المحیط" لابی حیان اندلسی، متوفی ۷۵۳ھ، ص ۲۵۸، جلد ثامن تحت الایہ

(۲) "تفسیر لابن کثیر" ص ۳۵۳، ج ۴، جلد الرابع تحت الایہ

(۳) "تفسیر روح المعانی" ص ۸۱، آخر سورۃ ممتحنہ تحت الایہ

لے (۱) "مسلم شریف" ص ۷۵، ج ۲ (تفسیر ہند بنت عتبہ)

(۲) "تاریخ ابن عساکر" ص ۴۴۹، جلد تراجم النساء، تحت ہند بنت عتبہ۔ طبع دمشق

(تھا)

”ربینا ہم صغار او قتلتم کبار ایوم بدر“۔
یہ نمکین کلام سن کر حضرت عمرؓ جو پاس ہی موجود تھے وہ بھی اور نبی کریم علیہ
الصلوة والتسلیم ہنس پڑے اور تبسم فرمانے لگے۔

اس موقع پر آخری چیز عورتوں کے سامنے یہ رکھی گئی تھی کہ معروف یعنی
”بہتر بات“ میں نافرمانی نہیں کریں گی یعنی اچھے اور مشروع کام میں اطاعت کرنی
ہوگی۔ بعض روایات کی بنا پر اس وقت ہند نے جناب رسالت ماب ﷺ کی
خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہم اس مجلس میں اطاعت و
فرمانبرداری کے لیے ہی حاضر ہوئی ہیں، ہمارے دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں
ہے۔ اے

اس موقع کی گفتگو پر نظر کرنے سے ہند کی صلاحیتوں اور خوبیوں کا اندازہ
ہوتا ہے کہ کیسی عقل مند، خوددار اور زیرک خاتون تھیں۔ پھر جناب رسالت
ماب ﷺ کی خدمت میں بڑے اخلاص کے ساتھ کیسے فصیح کلام میں معروضات
پیش کیں؟ اور بیعت کنندہ خواتین کی کیسے عمدہ طریق سے نمائندگی کی؟
اس کے ساتھ ساتھ شرف بیعت کے ساتھ مشرف ہوئیں اور ”بارگاہ
نبوت“ سے ”استغفار نبوی“ جیسی عظیم فضیلت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔
(سبحان اللہ)

۱) ”تفسیر الجامع لاحکام القرآن“ للقرطبی ص ۳۷۲، ج ۱۸، تحت آیت بیعت

۲) ”تفسیر البحر المحیط لابن حبان“ ص ۲۵۸، ج ۸، تحت آیت بیعت النساء

۳) ”البدایہ“ لابن کثیر، ص ۳۱۹، جلد الرابع تحت حالات فتح مکہ

۴) ”تاریخ ابن عساکر“ ص ۴۵۳، جلد تراجم النساء، تحت ہند بنت عتبہ

بیعت کے موقع پر ہند بنت عتبہ کا کلام جو ہم نے اپنی کتابوں سے ذکر کیا ہے، اسی طرح ہند کا کلام جناب رسالت ماب ﷺ کی خدمت اقدس میں شیعہ مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس کا حوالہ پیش کر دینا کافی ہے۔ اہل علم رجوع فرما کر تسلی کر سکتے ہیں۔

ضروری تنبیہ

چار دہم صدی کے بعض مشہور مصنفین اس مقام کے مکالمہ بالا کی تفصیلات میں مورخ طبری کی روایت کے پیش نظر بعض نازیبا کلمات درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جناب ہند بنت عتبہ نے اس موقع پر آنجناب ﷺ کی خدمت میں بے باکی سے بڑا گستاخانہ کلام کیا۔ پھر اس مکالمے میں بے ادبی کی عبارت ذکر کی ہے۔

حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور بناء الفاسد علی الفاسد کا نمونہ ہے۔ ہم نے مندرجہ روایات میں صحیح واقعہ باحوالہ پیش کیا ہے جس میں کوئی گستاخانہ چیز مذکور نہیں۔ مندرجہ حوالہ جات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ طبری پر اعتماد نہ کریں بلکہ خود کچھ عقلمندی سے کام لینا چاہیے۔ یہ مقام (فتح مکہ) بڑائی اور تکبر کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں تھا بلکہ یہ تو صلح اور آشتی کا موقع ہے۔ اس مقام پر کوئی مرد بھی گستاخی اور کج کلامی نہیں کر سکتا تھا چہ جائیکہ ایک عورت جو معافی کی امید لے کر حاضر ہو رہی ہو، وہ بے باکی کے لہجے میں کلام کرے۔ (غور کا مقام ہے) (نافیہم)

ٹے ”تاریخ الخواری“ ص ۹۳، تحت ذکر شعی بن سیرہ معاویہ، طبع اول مصری۔ تصنیف محمد بن علی بن طباطبائی (ابن طفطقی الشیبی) تالیف ہذا ۱۰۷۰ھ

مقولہ مشہور ہے کہ ۔

یک من علم رادہ من عقل باید

اس کے مطابق ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے اس موقعہ کے نشیب و فراز

کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

(۵)

جنگ یرموک میں شرکت -- ۱۳ھ

عورتوں کے مجاہدانہ کارنامے اور ہند کا قول

جنگ یرموک میں جس طرح مسلمان مجاہدوں نے اس جنگ عظیم میں اپنے کارنامے پیش کیے، اسی طرح اہل اسلام کی خواتین نے اس میں پوری طرح قربانیاں پیش کیں۔ حضرت ابوسفیانؓ کا پورا گھرانہ اس میدان کارزار میں حاضر تھا۔ جیسا کہ ہم نے قبل ازیں حضرت ابوسفیانؓ کے واقعات میں ذکر کیا ہے، خود حضرت ابوسفیانؓ حاضر تھے۔ ان کے دونوں فرزند یزیدؓ بن ابی سفیانؓ اور حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ، ان کی زوجہ ہند بنت عتبہؓ، ان کی لڑکی جویریہ بنت ابی سفیان اور پھر اس جویریہ کا زوج (حضرت ابوسفیانؓ کا داماد) یہ تمام حضرات اس میدان میں اسلام کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اس موقع کا قلیل سا تذکرہ حضرت ہند بنت عتبہ کے متعلق یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

مورخین نے لکھا ہے کہ اہل اسلام کی عورتیں جنگ یرموک میں شریک ہوئیں اور ان اضطراری حالات میں قتال شدید میں حصہ لیا۔ حضرت ہندؓ مخالفین اسلام رومیوں کے قتال کے لیے مسلمانوں کو قتال پر ترغیب دلاتی تھیں اور دشمنوں کے خلاف تحریض کرتی تھیں۔ بعض ہنگامی حالات میں جوش دلاتے ہوئے

حضرت ہندؒ فرماتی تھیں کہ ”اے مسلمانو! ان غیر مختونوں کو اپنی تینوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔“

”تقول عضد والغلفان بسیوفکم“^۱

اسلام میں ان کی نہایت شاندار خدمات ہیں جو انہوں نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود سرانجام دیں اور میدان کارزار میں اپنے زوج سمیت شریک ہوئیں۔ یہ سب کچھ اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر اور دین متین کی اشاعت کے لیے تھا۔

(۶)

روایت حدیث

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ چیز مروج تھی کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و اقوال اور آپ کے اعمال کو صحابہ کرامؓ ایک دوسرے سے نقل فرمایا کرتے تھے اور اس کو ایک نیکی اور سعادت سمجھ کر سرانجام دیا کرتے تھے۔ یہی چیز آگے امت مسلمہ تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ ثابت ہوئی۔

اس سلسلہ میں حضرت ہند بنت عتبہ سے بھی نقل روایت کا سلسلہ محدثین کے نزدیک ثابت ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضرت ہندؒ سے روایت نقل فرمائی ہے اور ان کے فرزند امیر معاویہؓ نے بھی اپنی ماں (حضرت

۱) ”فتوح البلدان“ للبلاذری ص ۱۳۱-۱۳۲ تحت یوم یرموک

۲) ”تاریخ طبری“ ص ۳۶ ج ۳ تحت خبر الیرموک

۳) ”اسد الغابہ“ ص ۵۶۳ ج ۵ تحت ہند بنت عتبہ

۴) ”تاریخ ابن عساکر“ ص ۲۳۷-۲۳۸ جلد تراجم النساء، تحت ہند بنت عتبہ۔ طبع دمشق

ہند بنت عتبہ) سے حدیث نقل کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

وفات

حضرت ہند بنت عتبہ جنگ یرموک سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں اور پہلے سے مدینہ طیبہ ہی میں ان کا قیام تھا اور ان کے زوج حضرت ابو سفیانؓ بھی مدینہ منورہ میں ہی مقیم ہو چکے تھے۔ عمر کا آخری حصہ اسی مقدس شہر میں پورا کیا اور اپنے خاوند سے پہلے ان کا مدینہ منورہ ہی میں ۱۴ھ میں انتقال ہوا۔ (اگرچہ ان کی وفات کے سلسلہ میں بعض دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں مگر مشہور قول کے مطابق ۱۴ھ ہی ہے) ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جس روز سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے والد شریف حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہما نے وفات پائی اسی روز حضرت ہند بنت عتبہ کا بھی انتقال ہوا۔

”وماتت یوم مات ابو قحافہ“ فی سنہ اربع
عشرہ وہی ام معاویہ بن ابی سفیانؓ۔“

چند گزارشات

حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مختصر طور پر ذیل میں چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جو سابقہ عنوانات کے خلاصہ کے طور پر حاضر خدمت ہیں۔

(۱) ”تہذیب الاسماء واللغات“ للوادعی ص ۳۵۷، جلد اول، تحت حرف الماء (المد)
(۲) ”الاکمال فی اسماء الرجال“ لصاحب المکتوبہ، ص ۲۲۳، فصل فی صحابیات تحت ہند بنت عتبہ

(۳) ”تاریخ ابن عساکر“ ص ۳۳۷، جلد تراجم النساء تحت ہند بنت عتبہ۔ طبع دمشق

۱۷۷ (۱) ”البدایہ“ لابن کثیر، ص ۵۱، ج ۷، تحت ۱۴ھ

(۲) ”اسد الغابہ“ ص ۵۶۳، ج ۵، تحت ہند بنت عتبہ

- ۱- حضرت ہند بنت عتبہ کی رشتہ داری کا تعلق جناب رسالت مآب ﷺ کے مبارک خاندان کے ساتھ یہ ہے کہ ام حبیبہؓ بنت ابی سفیانؓ ام المومنین ہیں اور ام حبیبہؓ کے والد حضرت ابو سفیانؓ حضرت ہند کے زوج ہیں۔ تو حضرت ہندؓ ام حبیبہ کے والد کی زوجہ ہیں، اس طرح یہ رشتہ داری کا دائمی تعلق موجود ہے۔
- ۲- حضرت ہند قبیلہ قریش کی سردار اور عقل مند عورتوں میں سے تھیں اور اپنے قبیلہ کی خواتین میں ایک نمایاں حیثیت کی حامل تھیں۔
- ۳- قریش مکہ کی باعزت خواتین کے ساتھ مل کر مشرف بہ اسلام ہوئیں اور ان کا اسلام منظور و مقبول ہوا۔ اور سابقہ خطاؤں کی معافی کا سامان ہو گیا۔
- ۴- ایمان و اسلام کی روشنی سے جب ہند بنت عتبہ کا قلب منور ہوا تو خود تراشیدہ خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر ڈالا اور مسئلہ توحید کی اپنے کردار و عمل سے تصدیق کر دی۔
- ۵- پھر رسالت مآب ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور ان کو آنجناب ﷺ کی جانب سے ”مرحبا“ کا اعزاز نصیب ہوا، اور ”خوش آمدید“ کے کلمات سے سرفراز ہوئیں۔
- ۶- نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ اظہار مودت کیا اور ان کو جواب میں از دیاد محبت کی بشارت حاصل ہوئی جو ان کے حق میں خوش نصیبی کی علامت ہے اور خوش بختی کی دلیل ہے۔
- ۷- پھر ان کو دیگر خواتین کی معیت میں بیعت نبوی ﷺ کا ”شرف عظیم“ حاصل ہوا جو ایک نعمت غیر مترقبہ ہے اور اخروی نجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔

۸- بیعت کے بعد ان کو اپنے زوج کے مال سے بقدر ضرورت مصارف کی خصوصی اجازت فرمائی گئی۔

۹- اسلام کے احیاء اور دین متین کی اشاعت کے لیے ان کو اپنے گھرانے سمیت اسلامی جنگوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ ان کے اخلاص ایمان کی واضح دلیل ہے۔

۱۰- احادیث نبوی ﷺ کو نقل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک مستقل کار خیر ہے، اس میں بھی حضرت ہندؓ بہت عتبہ نے حصہ لیا اور اشاعت دین و تبلیغ مذہب کے ثواب میں شامل ہوئیں۔

یہ تمام چیزیں حضرت ہندؓ بہت عتبہ کی دیانت و امانت، صداقت و شرافت اور ایمان کی پختگی کی واضح علامات ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

اسلام کی ایسی نامور خواتین کو ان کی جاہلی دور کی خطاؤں اور لغزشوں کے پیش نظر برے القاب کے ساتھ یاد کرنا اور نازیبا کلمات سے ذکر کرنا مسلمانوں کے لیے ہرگز زیبا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد

الایمان ومن لم یتب فاولئك هم الظالمون۔

یعنی ”ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے

بعد برا نام گنہگاری ہے، جو کوئی توبہ نہ کرے وہی ہیں ظلم کرنے والے۔“

اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو ان کی سابقہ تمام

غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا اور جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔

قوله تعالیٰ: ”ان الحسنات یزھبن السیئات۔“

یعنی ”ضرورتیں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔“

اور ارشاد نبوی ﷺ ہے: ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ۔
 یعنی ”اسلام لانے سے سابقہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ساقط ہو جاتی ہیں۔“
 نیز سردار دو عالم ﷺ کا امت مسلمہ کے لیے فرمان ہے:
 اذ کروا موتا کم بالخییر۔ (یعنی اپنے موتی کو خیر کے ساتھ یاد کیا
 کرو)

نیز رسالت مآب ﷺ کا فرمان عالی ہے کہ ”اذا ذکر اصحابی
 فامسکوا“۔ یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان کو روک لو۔ یعنی
 برائی سے یاد نہ کرو۔

اس بنا پر بھی حضرات صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کو خیر کے بغیر کسی دوسری
 چیز کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی خوبیوں کو ذکر کرنا مناسب ہے اور خامیوں
 کو نظر انداز کرنا لازم ہے۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ کے حق میں علمائے عقائد نے یہ
 ہدایت فرمائی ہے کہ ”لانذکرہم الا بخیر“۔ یعنی ہم ان کو خیر سے ہی یاد
 کرتے ہیں۔

ان فرمودات کے پیش نظر حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خیر
 کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی ہدایات دیتا ہے۔

حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

(۱)

نام و نسب:

حضرت ابو سفیان محم بن حرب رضی اللہ عنہ کے مشہور فرزند کا پدری نسب یزید بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف ہے۔ اور آنمو صوفؒ کی والدہ کا نام زینب بنت نوفل بن خلف ہے۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے سوتیلے برادر کلاں ہیں۔ آپؒ بہت جلیل القدر شخصیت تھے اور فضلاء صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ آنمو صوفؒ فطرتاً شریف النفس اور سلیم الطبع واقع ہوئے تھے اور اپنے بہترین کارناموں کی بدولت ان کو ”یزید الخیر“ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور آپؒ بڑے عقیل، دانش مند اور جری لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ علامہ الذہبیؒ نے ان کا تذکرہ بالفاظ ذیل تحریر کیا ہے:

وکان جلیل القدر شریفاً سیداً فاضلاً

لے (تاریخ الاسلام، للذہبی، ص ۲۵، ج ۲، تحت سنہ ۵۱۸ھ)

اور ایک دوسرے مقام میں لکھا ہے کہ:

و کان من العقلاء و الالباء و الشجعان
المذکورین۔

(۲)

قبول اسلام اور غزوہ حنین میں شرکت:

یزید بن ابی سفیانؓ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئے اور ان کا اسلام جناب نبی کریم ﷺ نے قبول فرمایا۔ آپؐ عمر بھر اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے اور اعلیٰ اسلامی خدمات سرانجام دینے میں پیش پیش رہے اور بڑے فعال ثابت ہوئے۔ آپؐ اسلام کے مجاہدین میں سے ایک نامور مجاہد تھے۔

سب سے اول آپؐ نے غزوہ حنین میں شرکت کی اور غنائم میں وافر حصہ پایا۔ ان کی دینی خدمات کو محدثین اور مورخین نے بڑے عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے۔

چنانچہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ:

اسلم یزید یوم فتح مکہ وشهد مع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حنین واعطاه رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من غنائم حنین مائۃ من

لے (سیر اعلام النبلاء للذہبی، ص ۲۳۷، ج ۱، تحت ترجمہ یزید بن معاویہؓ)

الابل واربعين اوقيه ولم يزل يذ كر بخير“ لے
یعنی فتح مکہ کے روز یزید (بن ابوسفیان) اسلام لائے اور غزوہ حنین میں اپنے
پیغمبر کریم ﷺ کی معیت میں شامل ہوئے۔
غزوہ ہذا میں فتح کے بعد مال غنیمت میں سے نبی اقدس ﷺ نے ان کو ایک
سواونٹ اور چالیس اوقیہ (درہم) عنایت فرمائے۔ اور لوگ ہمیشہ ان کو ”یزید
الخیر“ کے نام سے ذکر کرتے تھے۔

(۳)

سب کتابت:

نبی اقدس ﷺ کے کاتبوں کا جہاں اہل سیرت ذکر کرتے ہیں، وہاں یزید بن
ابی سفیانؓ کو بھی کاتب نبوی شمار کرتے ہیں۔
چنانچہ ابن حزم نے ”جوامع السیرة“ میں نبی اقدس ﷺ کے کاتبوں کے
نام جہاں ذکر کیے ہیں، وہاں ان کا نام آٹھویں مقام پر یزید بن ثابتؓ اور امیر معاویہؓ
کے اسماء سے قبل ذکر کیا ہے۔
اسی طرح علی بن برہان الدین الحللی نے اپنی ”سیرة حلبیہ“ میں متعدد صحابہ
کرامؓ کو کاتبین نبوی میں شمار کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ:

۱۔ طبقات ابن سعد، ص ۱۲۷، ج ۱، القسم الثانی تحت تذکرہ یزید بن ابی سفیان)

۲۔ البدایہ، لابن کثیر، ص ۹۵، ج ۷، تحت تذکرہ یزید بن ابی سفیان)

۳۔ تاریخ ابن عساکر، عساکر، ص ۳۰۷، ج ۱۸، تحت یزید بن ابی سفیان)

۴۔ سیر اعلام النبلاء، للذہبی، ص ۲۳۷-۲۳۸، ج اول، تحت یزید بن ابی سفیان)

۵۔ جوامع السیرة لابن حزم اندلسی، ص ۲۶، تحت کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم)

معاویہ بن ابی سفیانؓ واخوہ یزیدؓ لے

ترجمہ: ”یعنی حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیانؓ دونوں کاتب نبوی تھے۔“

دینی اعتماد کے سلسلہ میں کاتب نبوی ہونا اس شخص کے لیے وثاقت کی دلیل اور صداقت کا بہترین نشان ہے اور یہ شرف خاص خاص لوگوں کو ہی حاصل تھا۔

(۴)

منصب امارت:

جناب یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبعی صلاحیتوں کی بنا پر بڑے مستعد کارکن تھے۔ چنانچہ جس طرح نبی اقدسؐ نے ان کے برادر خورد امیر معاویہؓ کو مختلف امور پر عامل بنا کر روانہ فرمایا تھا، اسی طرح ان کو بھی نبی اقدس ﷺ نے علاقہ ”تیماء“ پر امیر بنا کر روانہ فرمایا۔

چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ:

یزید بن ابی سفیانؓ امرہ (نبی اقدس ﷺ) علی تیماء لے

لے (میرۃ حلیہ، ص ۳۶۳، ج ۳، باب ذکر المشاہیر من کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم)

لے (۱- کتاب الجبرلابی جعفر بغدادی، ص ۱۲۶، تحت امراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

(۲- فتوح البلدان للبلاذری، ص ۳۲، تحت امر وادی القرئی و تیماء)

(۳- تاریخ لابن عساکر عساکر عساکر، ص ۳۰۶، ج ۱۸، تحت یزید بن ابی سفیانؓ)

اور ایک دیگر مقام پر مورخین نے لکھا ہے کہ:
 ”جناب نبی اقدس ﷺ نے یزید بن ابی سفیانؓ کو قبیلہ بنی فراس
 (جو آپ کے ننھالی رشتہ دار تھے) کے صدقات پر عامل بنا کر روانہ فرمایا:
 واستعمله النبی ﷺ علی صدقات بنی
 فراس وكانوا احوالہ۔

دور نبوت میں بفرمان نبوی ﷺ کسی علاقہ کا امیر بنایا جانا یا بعض قبائل کے
 حصول صدقات پر عامل مقرر کیا جانا خاص دینی اعتماد و اخلاص عمل پر ہوتا تھا۔ ہر
 شخص اس منصب کا اہل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فضل و شرف بھی یزید بن ابی سفیانؓ کو
 نصیب ہوا اور امیر و عامل بنائے گئے۔

(۵)

اعتماد نبوی ﷺ :

علاقہ یمن سے ایک شخص ہانی ابو مالک جو الکندی قبیلہ کے ایک معزز فرد
 تھے، جناب نبی اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔
 جناب نبی کریم ﷺ نے ان پر خصوصی شفقت فرمائی اور ان کے سر پر ہاتھ
 پھیرتے ہوئے برکت کی دعا فرمائی اور انہیں یزید بن ابی سفیانؓ کے ہاں ٹھہرایا۔
 جناب ہانیؓ نے یزید کے ہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے
 یزید کو ملک شام کی طرف امیر جیش مقرر فرما کر روانہ کیا تو ہانی یزید کے ساتھ ملک
 شام چلے گئے اور پھر وہیں مقیم ہو گئے۔ چنانچہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ:

نہ ۱۱۔ الاصابہ لابن حجر، ص ۶۱۹، ج ۳، تحت یزید بن ابی سفیان)

التاریخ لابن عساکر عکسی، ص ۳۰۸، ج ۱۸، تحت یزید بن ابی سفیان)

ہانی انه قدم على رسول الله ﷺ من اليمن
 فاسلم فمسح رسول الله ﷺ على راسه ودعاه
 بالبركه وانزله على يزيد بن ابى سفيان حتى
 خرج معه الى الشام حين وجهه ابوبكر رضى
 الله عنه۔

مذکورہ بالا واقعہ سے جناب نبی اقدس ﷺ کا یزید بن ابی سفیانؓ پر کامل
 اعتماد واضح ہوتا ہے اور ان کی جانب سے فرمان نبوی کی قدر دانی اور اطاعت ثابت
 ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جناب یزیدؓ کے حق میں بہترین فضیلت کی ہیں۔

(۶)

روایت حدیث کا شرف:

جناب نبی اقدس ﷺ سے دیگر صحابہ کرامؓ کی طرح یزید بن ابی سفیانؓ نے
 بھی حدیث نقل کی ہے اور یہ شرف ان کو دوسرے رواۃ حضرات کی طرح حاصل
 ہے اور پھر ان سے دیگر صحابہ کا روایت نبوی نقل کرنا بھی ثابت ہے۔ فلذا ان کو
 راوی اور مروی ہونے کے دونوں شرف نصیب ہوئے۔

۱- له عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الوضوء وعن
 ابى بكر.....

۱- طبقات ابن سعد، ص ۱۳۹، ج ۷، قسم ثانی تحت ہانی الحمدانی
 ۲- اسد الغابۃ لابن اثیر، ص ۵۵، ج ۵، تحت ہانی ابومالک الکندی

۲- رویٰ عنہ ابو عبد اللہ الاشعریٰ وحنادہ بن ابی امیہؓ

(۷)

امیر جمیش اور صدیقیؓ وصایا:

اہل تاریخ و التراجم ذکر کرتے ہیں کہ ۱۲ھ میں جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس تشریف لائے تو ۱۳ھ کی ابتداء میں ملک شام کی طرف اسلامی افواج بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبرؓ نے اسلامی لشکر کے چار حصے تجویز فرمائے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ، عمرو بن العاصؓ، شرجیل بن حسنہؓ اور یزید بن ابی سفیانؓ کو ایک ایک حصہ پر امیر جمیش مقرر فرما کر روانہ فرمایا۔

البدایہ لابن کثیر میں ہے کہ:

ثم عقد لواء یزید بن ابی سفیان ومعہ جهمور
الناس ومعہ سهیل بن عمرو و اشباهہ من اهل
مکہ و خرج معہ ماشیا یوصیہ بما اعتمده فی
حربہ و من معہ من المسلمین و جعل له

۱- تاریخ الاسلام، للذمسی، ص ۲۵، ج ۲، تحت سنہ ۱۸ھ

۲- تاریخ لابن عساکر، ص ۳۰۶، ج ۱۸، عکسی تحت یزید بن ابی سفیان

۳- اسد الغابۃ، لابن اثیر، ص ۱۱۳، ج ۵، تحت یزید بن ابی سفیان

۱- اسد الغابۃ، ص ۱۱۲، ج ۵، تحت یزید بن ابی سفیان

۲- البدایہ، جلد ۷، ص ۳، دص ۹۵، تحت ترجمہ یزید بن ابی سفیان

۳- سیر اعلام النبلا للذمسی، ص ۲۳۸، جلد اول، تحت یزید بن ابی سفیان

دمشق.....

اور الذمھی نے یہاں اسی چیز کو بعبارت ذیل ذکر کیا ہے:

عقد له ابوبکر و مشی معه تحت رکابہ
یسایرہ ویودعه ویوصیہ۔ وما ذاک الا لشرفہ و
کمال دینہ و لما فتحت دمشق امرہ عمر[ؓ]
علیہا

ابن کثیرؒ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے یزید بن ابی سفیانؓ کو ایک علم (جھنڈا) عنایت فرمایا۔ حمیل بن عمرو اور اہل مکہ میں سے ان جیسے حضرات کو ان کے ہمراہ روانہ فرمایا اور خود کچھ ذیر تک ان کے ساتھ چل کر وصایا فرماتے ہوئے اس جیش کو رخصت فرمایا اور ان کے لیے دمشق کی ولایت تجویز فرمائی اور علامہ الذمھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ یزید کی سواری کے ساتھ بطور مشایعت کے چلے اور ان کو رخصت کیا اور وصایا فرمائیں۔ اور یہ بات یزیدؓ کی فضیلت اور کمال دین کے لحاظ سے آئمہ صوفیہ نے اختیار فرمائی۔

دیگر صدیقی وصایا:

اس موقع پر اکابر محدثین اور قہماء اور اہل تراجم نے حضرت صدیق اکبرؓ کی ہدایات و وصایا جو آپ نے اسلامی جیش کے امیر یزید کو دمشق کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمائیں، بڑے عمدہ طریقہ سے مفصل ذکر کی ہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ نے موطاء میں اس چیز کو بعبارت ذیل درج کیا ہے:

۱۔ البدایۃ والنہایۃ لابن کثیرؒ ص ۳، ج ۷، تحت سنہ ۵۱۳ھ

۲۔ (سیر اعلام النبلاء، للذمھی، ج ۱، ص ۲۳۸ تحت ترجمہ یزید بن ابی سفیانؓ)

وانی موصیک بعشر لا تقتلن امراہ ولا صبیا ولا
کبیرا ہرما ولا تقطعن شجرا مثمرہ ولا تخربن
عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعیرا مایو کل الا کله و
لا تحرقن نخلا ولا تفرقنہ ولا تغللن ولا تحبن

ان ہدایات صدیقیؒ کا مفہوم حسب ذیل ہے:

حضرت صدیق اکبرؓ نے ملک شام کی طرف افواج اسلامی روانہ فرمائیں، وہ
چار حصوں پر منقسم تھیں۔ ان میں سے ایک حصہ پر یزید بن ابی سفیانؓ امیر ہمیش
تھے۔ جناب صدیق اکبرؓ دور تک پایادہ یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے کے
لیے چلے گئے۔ یزیدؓ نے امیر المومنین صدیقؓ سے عرض کیا کہ آنجناب سواری پر
تشریف لائیں یا مجھے سواری سے اتر جانے کی اجازت بخشیں تو حضرت صدیق اکبرؓ
نے فرمایا کہ آپؓ سواری سے نہ اتریں اور میں سوار بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ
میں فی سبیل اللہ اپنے قدموں پر چل کر ثواب حاصل کر رہا ہوں۔

پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب یزیدؓ کو قتال کے متعلق
ہدایات و وصایا ارشاد فرمائیں، جن میں درج ذیل امور پر عمل کرنے کی تاکید
فرمائی:

۱- کسی خاتون کو قتل نہ کرنا۔

۱- (۱) موطاء امام مالکؒ ص ۱۶۷، کتاب الجہاد تحت النہی عن قتل النساء..... الخ، طبع دہلی)

(۲) کتاب الخراج لامام ابی یوسفؒ ص ۶۳۹، طبع ثانی، مصر)

(۳) فتح القدر لابن ہمامؒ ص ۲۱۹، ج ۳، مد العنایہ تحت باب کیفیہ القتال، طبع مصر)

(۴) التاریخ لابن عساکرؒ ص ۳۱۰، ۳۱۲، ج ۱۸، العکسی تحت یزید بن ابی سفیان)

(۵) البدایہ لابن کثیرؒ ص ۳، ج ۷، تحت سنہ ۱۱۳ھ)

(۶) البدایہ لابن کثیرؒ ص ۹۵، ج ۷، تحت یزید بن ابی سفیان)

- ۲- کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔
- ۳- کسی عمر رسیدہ شخص کو قتل نہ کرنا۔
- ۴- کسی پھل دار درخت کو نہ کاٹنا اور قطع نہ کرنا۔
- ۵- کسی آبادی کو برباد نہ کرنا۔
- ۶- کسی بکری یا اونٹ کو نہ کاٹ ڈالنا مگر کھانے کے لیے ذبح کرنا مباح ہے۔
- ۷- کسی کھجور کے درخت کو نہ جلا دینا۔
- ۸- توڑ پھوڑ نہ کرنا۔
- ۹- مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا۔
- ۱۰- دشمن کے مقابلہ میں بزدلی نہ دکھانا۔

چنانچہ جناب یزید بن ابی سفیانؓ ان زریں نصائح و وصایا کو حاصل کر کے ارض شام کی طرف روانہ ہوئے اور ان پر پورا عمل درآمد کیا اور اس مہم میں کامران و کامیاب ہوئے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف یزید بن ابی سفیانؓ کا ایک مکتوب:

مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں کے بادشاہ ہرقل کو جب اسلامی افواج کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ روم میں داخل ہو رہی ہیں تو اس نے اپنی اقامت گاہ چھوڑ کر اظاکہ شہر کا رخ کیا۔ امیر افواج یزید بن ابی سفیانؓ نے پیش آمدہ حالات سے مطلع کرنے کے طور پر مرکز میں امیر المومنین حضرت ابو بکرؓ کی طرف ایک مراسلہ تحریر کیا جو کتاب فتوح الشام میں منقول ہے۔

مکتوب کا مفہوم اس طرح ہے:

یزید بن ابی سفیانؓ نے بسم اللہ کے بعد اس طرح ذکر کیا کہ شاہ روم کو جب ہماری اس کی طرف پیش قدمی معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اہل

اسلام کا رعب ایسا ڈالا کہ وہ اپنے مقام سے چل کر انطاکیہ کے مقام پر نازل ہو اور مدائن شام پر اپنے لشکر کے امراء کو مقرر کر کے ہمارے ساتھ قتال کا انہیں حکم دیا..... (الخ)

ان حالات میں اے امیر المؤمنین! اپنے حکم اور اپنی رائے سے ہمیں جلد مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل در آمد کریں گے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی نصرت اور فتح طلب کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عافیت کے طلب گار ہیں۔
آپ پر سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

مکتوب ہذا کی اصل عبارت

۹۹- کتاب یزید بن ابی سفیان الی ابی بکرؓ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فان ملكك الروم هرقل لما بلغه مسيرنا اليه
القي الله الرعب في قلبه فتحمل (اي ارتحل....)
فنزل انطاكيه، وخلف امراء من جنده على
مدائن الشام وامرهم بقتالنا..... فمرنا بامر ك
وعجل علينا في ذلك برايك نتبعه ان شاء الله
و نسال الله النصر والصبر والفتح وعافيه

المسلمين والسلام عليك ورحمه الله (فتوح
الشام ص ۲۵)

امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف سے مکتوب کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ نے مرکز کی طرف سے لکھا کہ:

آپ کا مرسلہ خط ہمیں پہنچ گیا ہے اس میں درج ہے کہ ملک روم نے انطاکیہ کی جانب کوچ کیا اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت سے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے خوف ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ (ہمیں کافی ہے) اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے۔

ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا تھا۔ اور اپنے ملائکہ کرام کے ذریعے ہماری خصوصی نصرت فرماتا تھا۔ یہ وہ دین ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا ہے اور وہی دین ہے جس کی آج ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مجرموں کی طرح نہیں بنائے گا۔ (بلکہ اہل اسلام کو غالب کر دے گا۔)

.... جب ان کفار کے ساتھ آنا سامنا ہو تو اپنے معاونین سمیت ان کے خلاف قتال کرو۔

اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کئی بار قلیل جماعت کثیر جماعت پر باذن اللہ غالب رہتی ہے۔

پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ ملک شام کی طرف فوج بعد از فوج روانہ فرمانے لگے۔

جوانی مکتوب کی اصل عبارت

۱- ردابی بکرؒ علی یزید بن ابی سفیانؒ فکتب الیہ ابوبکرؒ-

بسم الله الرحمن الرحيم- اما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه تحمل ملكك الي انطاكيه والقاء الله الرعب في قلبه من جموع المسلمين، فان الله، وله الحمد، قد نصرنا و نحن مع رسول الله ﷺ بالرعب و امدنا بملائكته الكرام وان ذلك الدين الذي نصرنا الله به بالرعب هو هذا الدين الذي ندعو الناس اليه اليوم فوريك لايجعل الله المسلمين كالمجرمين..... فاذا القيتموهم فانهد اليهم بمن معك وقاتلهم فان الله لن يخذلك وقد نبانا الله تبارك وتعالى ان الفئه القليله تغلب الفئته الكثيره باذن الله.....

وجعل ابوبكر يبعث بالامداد الى الشام مددا
تلومدد- ل

(”جمهرة رسائل العرب“، ص ۱۳۷-۱۳۸، ج ۱، ”تأليف احمد زكي صفوت“
طبع اول، مصر، بحواله، ”فتوح الشام“ ص ۲۶)

(۸)

جنگ یرموک میں جناب ابوسفیانؓ کی ہدایات

جنگ یرموک دشمنان اسلام کے خلاف (علی اختلاف الاقوال) ۱۳ھ / ۱۵ھ میں لڑی گئی اور اسلام میں یہ جنگ نہایت اہم تھی۔

اس جنگ میں جناب یزید بن ابی سفیان اسلامی لشکر کے ایک حصہ یعنی میسرہ پر امیر جیش تھے اور آپ کے والد گرامی ابوسفیانؓ بن حرب ضعف و پیری کے باوجود شریک ہوئے اور دوسری آنکھ کی بھی قربانی پیش کر کے ناپینا ہو گئے اور بصارت چشتی سے معذور ہو گئے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو شدید قتال کا سامنا کرنا پڑا، مگر جناب یزیدؓ نے دیگر صحابہ کرامؓ کی طرح نہایت ثابت قدمی اور جرات کا مظاہرہ کیا۔

دوران جنگ بعض دفعہ جناب ابوسفیانؓ اپنے فرزند جناب یزیدؓ کو تکیہ فرماتے تھے کہ:

فاتق الله يا بنی! ولا یكونن احد من اصحابک
بارعب فی الاجرو الصبر فی الحرب ولا اجراء
علی عدو الاسلام منک۔ فقال افعل ان شاء الله۔
فقاتل یومئذ قتالا شديدا وکان من ناحیه
القلب رضی الله عنه۔^۱

۱۔ ”البدایہ والنہایہ لابن کثیر“ ص ۱۳، تحت یرموک۔

۲۔ ”میراعلام النبلاء للذہبی“ ص ۷۸، جلد ثانی، تحت ترجمہ ابی سفیانؓ

مطلب یہ ہے کہ:

اے بیٹے! (صرف) اللہ تعالیٰ سے خوف کیجئے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی فرد جنگی معاملہ کے متعلق اجر و ثواب میں آپ سے زیادہ راغب نہ ہو، اور دشمنان اسلام کے خلاف آپ سے زیادہ کوئی جرات مند نہ ہو، تو جناب یزیدؓ نے اپنے والد گرامی کے فرمان کے جواب میں عرض کیا، انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔

چنانچہ جناب یزیدؓ نے نہایت شدید قتال کیا (اور فتح مندی سے ہمکنار ہوئے۔)

یہ واقعہ قبل ازیں ہم نے کتابچہ ”حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ“ تحت ”اپنے بیٹے کو وصایا“ درج کیا تھا۔

یہاں یزید بن ابی سفیانؓ کے بالاستقلال تذکرے کے ضمن میں ذکر کرنا مفید خیال کیا ہے۔

(۹)

ایک اہم معرکہ میں فتح

ملک شام کے علاقہ میں مختلف مقامات پر اہل اسلام کو دشمن کے ساتھ قتال کرنے اور معارضہ کے بہت مواقع پیش آئے۔

چنانچہ الطبری نے ان ایام میں ایک جنگی معارضہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ:

مخالفین کی افواج میں ایک توذرانامی شخص بڑا جنگجو بہادر تھا۔ اس کے ساتھ یزید بن ابی سفیانؓ کا شدید مقابلہ ہوا پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ قتال کے دوران

ہی پیچھے سے خالد بن ولیدؓ آپہنچے اور اہل اسلام نے مخالفین کے ساتھ سخت قتال کیا اور وہاں سے بھاگ جانے والوں کے بغیر دشمن کے لشکریوں کو قتل کر ڈالا اور ان میں سے کوئی بچ کر نہیں گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کو مال غنیمت (سواریاں لباس اور دیگر مال و متاع) بے شمار حاصل ہوا۔

پھر اس تمام مال غنیمت کو یزید بن ابی سفیانؓ نے اپنے مجاہدین رفقاء اور خالد بن الولید کے ساتھیوں میں حسب دستور تقسیم کر دیا۔

غنائم کی تقسیم کے بعد یزید بن ابی سفیانؓ دمشق کی طرف اور خالد بن الولید اپنے امیر جمیش حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کی طرف روانہ ہو گئے۔

وقد بلغ یزید بن ابی سفیانؓ الذین فعل توذرا۔
فاستقبله فاقتتلوا ولحق بهم خالد وهم
یقتتلون فاخذهم من خلفهم فقتلوا من
ایدیہم ومن خلفهم فانا موہم۔ فلم یفلت
منہم الا الشرید۔

فاصاب المسلمون ماشاء وامن ظہروا دابة
وثیاب وقسم ذالك یزید بن ابی سفیانؓ علی
اصحابه واصحاب خالد۔ ثم انصرف یزید الی
دمشق وانصرف خالد الی ابی عبیدہؓ۔

(۱۰)

فتح مدینہ دمشق

شہر دمشق کے محاصرہ کے موقع پر مورخین نے لکھا ہے کہ صورت ذیل میں

لے ("تاریخ طبری" ص ۵۹۸-۵۹۹، "جلد ثالث تحت" ۱۵، طبع جدید مصر)

اکابر حضرات "محاصرہ کیے ہوئے تھے۔

مدینہ دمشق کے باب الشرق پر خالد بن الولیدؓ باب تو ما پر عمرو بن العاصؓ "باب
الفرادیس پر شرمیل بن حسنہؓ "باب الجابیہ پر ابو عبیدہ بن الجراحؓ اور باب الصغیر
جسے کیسان کہتے تھے اس پر یزید بن ابی سفیانؓ "محاصرہ کیے ہوئے تھے لیے

پھر ابو عبیدہ القاسم بن سلام نے اپنی تصنیف "کتاب الاموال" میں اس طرح
تحریر کیا ہے کہ:

دخلها يزيد بن ابي سفيان من الباب الصغير
قسرا" ودخلها خالد بن الوليد من الباب
الشرقي صلحا۔^۱

اور جناب یزید بن ابی سفیانؓ نے فلسطین اور اردن کے علاقہ جات میں بہت
فتوحات حاصل کیں۔ عمان اور بصری وغیرہ کو صلح کے ساتھ فتح کیا۔^۲

(۱۱)

فتوحات سواحل دمشق

نیز دمشق کے علاقہ کی فتوحات کے سلسلہ میں مورخ ابن اثیر نے الکامل میں
لکھا ہے کہ جب فتح مدینہ دمشق تمام ہو گئی تو اسلامی عساکر کے امیر الامراء جناب
عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو امیر دمشق مقرر فرمایا اور خود
لے ("فتوح البلدان للبلاذری" ص ۱۲۷، تحت فتح مدینہ دمشق)

لے ("کتاب الاموال" لابی عبیدہ القاسم بن سلام، ص ۱۷۷، روایت ۴۷۸ تحت
امرد دمشق وفتحها)

لے ("فتوح البلدان للبلاذری" ص ۱۳۳، تحت فتح مدینہ دمشق۔

مقام نخل کی جانب روانہ ہوئے۔

جناب یزید بن ابی سفیانؓ سواحل دمشق کے مقامات کی طرف اپنے لشکر سمیت عازم سفر ہوئے۔ صیدا، عرقہ، جبیل اور بیروت وغیرہ یہ دمشق کے سواحل پر شمار ہوتے تھے۔ جناب یزید موصوف کے لشکر کے مقدمہ الجیش پر ان کے براذر خورد حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیانؓ امیر و نگران مقرر تھے۔ مذکورہ کئی مقامات کے لوگوں کو وقتی مصلحت کے تحت وہاں سے نکال کر جلاوطن کیا اور سواحل کے دیگر مواضع کو فتح کر کے اسلام کے زیر نگیں کر دیا، اور خصوصاً عرقہ وغیرہ کو حضرت معاویہؓ نے یزید موصوف کی نگرانی و تولیت کے تحت خود فتح کیا۔

لما استخلف ابو عبیدہ یزید بن ابی سفیانؓ
 علی دمشق و سارالی فحل - ساریزیدالی مدینہ
 صیدا و عرقہ و جبیل و بیروت وہی سواحل دمشق
 علی مقدمتہ اخوہ معاویہؓ "فتوحہا یسیرا"
 و جلا کثیرا من اہلہا و تولی فتح عرقہ معاویہ
 بنفسہ فی ولایہ یزیدؓ۔

(۱۲)

تین صحابہ کرامؓ کا طلب کیا جانا

ملک شام میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت صدیق اکبرؓ ۱۳ھ میں انتقال فرما گئے۔ حضرت فاروق اعظمؓ ان کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس دور میں کثرت فتوحات کی بنا پر دینی مسائل کی تعلیم کی ضرورت بڑھ گئی تو

۱۷ ("اکامل لابن اثیر الجری" ص ۲۹۶، ج ۲، تحت ذکر فتح بلاد ساحل دمشق۔)

اس وقت جناب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا کہ:

فلما استخلف عمرؓ كتب یزید بن ابی سفیان
 ”الیہ ان اہل الشام کثیر۔ وقد احتاجوا الی من
 یعلمہم القرآن ویفقیہہم فقال اعینونی بثلاثہ
 فخرج معاذؓ وابودرداءؓ وعبادہ (بن الصامتؓ)“

یعنی یزید بن ابی سفیانؓ نے حضرت فاروقؓ کو لکھا کہ ارض شام میں کثرت سے اسلام پھیلا ہے اب یہاں ان کو قرآنی تعلیم اور دینی مسائل سمجھانے کی ضرورت درپیش ہے اس مقصد کے لیے کم از کم تین حضرات روانہ فرما کر ہماری اعانت کیجئے، تو حضرت فاروقؓ کی جانب سے اس کام کے لیے تین انصاری صحابہ حضراتؓ معاذ بن جبلؓ، ابودرداءؓ اور عبادہ بن صامتؓ کو شام بھیجا گیا تھا۔ ان حضرات نے علاقہ شام میں پہنچ کر دینی تعلیمات بڑے احسن طریقہ سے سرانجام دیں، اور ملک کے مختلف جوانب و اطراف میں ملی خدمات کا فریضہ ادا کیا، اور مذہبی تعلیم عام کر کے اسلام کے فروغ کا باعث ہوئے۔

یہ تمام پروگرام جناب یزید بن ابی سفیانؓ کی نگرانی میں پورا ہوا۔

(۱۳)

ایک مراسلہ فاروقیؓ

جناب یزید بن ابی سفیانؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں شام کے علاقے

۱- ”تاریخ الاسلام للذہبی“ ص ۱۱۸، ج ۲، ”تحت عبادہ بن الصامت“ ص ۳۳

۲- سیر اعلام النبلاء للذہبی، ص ۲۳۸، ج ۲، ”تحت ترجمہ ابی درداءؓ“

میں فتوحات کے سلسلہ میں مقیم تھے اس زمانے میں مرکز اسلام مدینہ طیبہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی جانب سے مختلف احکامات اور ہدایات جاری ہوتے تھے، اسی ضمن میں صاحب کنز العمال علی متقی الہندی نے ایک فاروقی مکتوب کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب سیدنا عمرؓ نے یزید بن ابی سفیانؓ کو ایک مراسلہ ارسال کیا اور ہدایت فرمائی کہ:

”حسب دستور ایک اسلامی لشکر روانہ کیجئے اور ربیعہ کے قبیلہ سے ایک شخص کو اس کا امیر جیش بنا کر اس کو پرچم دیجئے، کیونکہ میں نے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جیش شکست نہیں کھائے گا جس کا جھنڈا ربیعہ قبیلہ کے شخص کے ہاتھ میں ہوگا۔“

عن خالد بن معدان ان عمر بن الخطاب
کتب الی یزید (بن ابی سفیان) ان ابعث جیشا
وادفع لواءہم الی رجل من ربیعہ فانی سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یہزم
جیش لواءہم مع رجل من ربیعہ۔

چنانچہ فاروق اعظمؓ کی ہدایات کی روشنی میں یزید بن ابی سفیانؓ نے عمل درآمد کیا، اور مجاہدانہ کارنامے سرانجام دیئے، اور فروغ اسلام کی خاطر مساعی کیں۔

اے (کنز العمال) ص ۱۴۱، ج ۷ ”تحت فضائل قبائل ربیعہ“ (ابو احمد الدہقان فی الثانی) طبع اول، دکن، من حدیثہ ورجالہ ثقات)

شرب خمر کا واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جناب یزید بن ابی سفیانؓ ملک شام میں اپنی فتوحات کے سلسلہ میں علاقہ دمشق کے والی اور حاکم تھے۔

ان کی امارت کے ایام میں اہل شام کے بعض لوگ شراب خوری کے مرتکب ہوئے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ فعل ہمارے لیے حلال ہے، اور قرآن مجید کی آیت: یس علی الذین امنوا و عملوا الصلحت جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا..... الخ (پ ۷) سے اپنے اس فعل کا غلط جواز پیدا کرنے کے لیے اس میں تاویل کرنے لگے۔ اس صورت حال سے جناب یزید بن ابی سفیانؓ نے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کو بذریعہ مکتوب مطلع کیا، تو حضرت عمرؓ نے جواباً حکمنامہ ارسال فرمایا کہ اس سے قبل کہ یہ لوگ کسی فساد کا باعث بنیں انہیں ہماری طرف بھیج دیں۔

چنانچہ جب یہ لوگ حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اس مسئلہ کے متعلق آپؓ نے اکابر صحابہ کرامؓ سے مشورہ طلب فرمایا، تو صحابہ کرامؓ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین! ہماری رائے میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کی غلط تاویل کرتے ہوئے تکذیب کی ہے اور دین میں ایسی چیز کو مشروع قرار دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا۔ پس ان کی گردن اڑا دینی چاہیے۔

اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰؓ بھی موجود تھے، مگر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروقؓ نے حضرت علی المرتضیٰؓ سے فرمایا کہ اے ابوالحسن! آپ کی

اس مسئلہ میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰؑ نے جواب میں فرمایا کہ:
میری رائے یہ ہے کہ انہیں پہلے اس فعل سے رجوع اور توبہ کرنے کا موقعہ
فراہم کیا جائے اگر یہ لوگ اپنے اس فعل سے توبہ کر لیں تو ان کو شراب خوری کی
بنا پر اسی اسی درے لگوائے جائیں اور اگر یہ اپنے موقف سے توبہ ہی نہ کریں تو
ان کی گردن اڑدی جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کی ہے،
اور اپنے دین میں انہوں نے ایسی چیز کو مشروع کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم
نہیں فرمایا۔

چنانچہ ان لوگوں سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے موقف سے
رجوع کر کے توبہ کر لی اور پھر انہیں شراب خوری کی سزا کے طور پر اسی اسی درے
لگوائے گئے۔

اکابر محدثین نے اس واقعہ کو عبارت ذیل نقل کیا ہے۔

(۸۴۵۸)..... شرب قوم من اهل الشام الخمر و
عليهم يزيد بن ابي سفيان وقالوا: هي لنا حلال و
تأولوا هذه الاية - "ليس على الذين آمنوا
وعملوا الصلح جناح فيما طعموا" - قال: و
كتب فيهم الى عمر "فكتب ان ابعث بهم الى -
قبل ان يفسدوا من قبلك" فلما قدموا على عمر
استشار فيهم الناس فقالوا: يا امير المؤمنين!
تري انهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم
مالم ياذن به الله قاضرب رقابهم - وعلی
ساكت فقال: ماتقول يا ابا الحسن فيهم؟ قال:

اری ان تستیبهم : فان تابوا جلدتہم ثمانین
 لشرب الخمر وان لم یتوبوا ضربت رقابہم قد
 کذبوا علی اللہ وشرعوا فی دینہم مالم یاذن بہ
 اللہ۔ فاستتابہم۔ فتابوا فضربہم ثمانین
 ثمانین۔^۱

(۱۵)

مقام سرغ میں ملاقات

ملک شام کی فتوحات کی طرف حضرت عمر فاروقؓ کی خاص توجہ تھی۔ وہاں
 اسلامی جیوش کے امراء بڑی محنت کے ساتھ کام پر لگے ہوئے تھے اور فتوحات کا
 سلسلہ شروع تھا۔ پھر ان حالات میں حضرت عمر فاروقؓ کا وہاں خود تشریف
 لے جانا بعض دفعہ ضروری ہو جاتا تھا۔

اس سلسلہ میں مورخین نے تصریح کی ہے کہ کم و بیش چار دفعہ حضرت عمر
 فاروقؓ ملک شام میں تشریف لے گئے۔ دو بار ۱۶ھ میں اور دو بار ۱۷ھ میں۔ مورخ
 طبری نے اس مسئلہ کو عبارت ذیل ذکر کیا ہے۔

فاتی عمر الشام اربع مرات مرتین فی سنہ

ستہ عشر و مرتین فی سنہ سبع عشرة..... الخ

۱۔ ”المصنف لابن ابی شیبہ“ ص ۵۳۶، ج ۹، کتاب ”الحدود“، طبع کراچی

۲۔ شرح معانی الآثار للحمادی، ص ۸۸-۸۹، ج ۲، باب حد الخمر، طبع دہلی

۳۔ المغنی لابن قدامہ، ص ۱۳۹، ج ۹، کتاب الاثریہ، طبع مصر

۴۔ ”تاریخ طبری“ ص ۵۹، ج ۴، تحت عنوان خروج عمرؓ الی الشام طبع جدید، مصر

چنانچہ ۷۷ھ میں ایک دفعہ حضرت فاروق اعظمؓ شام کی طرف عازم سفر ہوئے متعدد مہاجرین و انصار حضرات شریک سفر اور ہم رکاب تھے۔ ”سرغ“ کے مقام پر جا کر فروکش ہوئے۔ علاقہ کے امراء الجیوش کو اطلاع ملی تو ذیل حضرات جناب فاروق اعظمؓ کی ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ ابو عبیدہ بن الجراحؓ، یزید بن ابی سفیانؓ، شرحبیل بن حسنہؓ یہ حضرات جیوش کے امراء تھے اور حضرت ابو عبیدہؓ امیر الامراء تھے۔

حتیٰ نزل بسرغ لقیہ امراء الاجناد ابو عبیدہ
بن الجراحؓ، یزید بن ابی سفیانؓ و شرحبیل بن
حسنہ..... الخ لہ

ان اکابرین حضرات رضی اللہ عنہم کے اجتماع ہذا میں علاقہ کے اہم حوارج اور احوال امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس ضمن میں ان حضرات نے اطلاع دی کہ:

فاخبروہ ان الارض سقیمہ۔^{۲۷}

یعنی جس علاقہ کی طرف جناب تشریف لے جانا چاہتے ہیں وہاں کی فضا خراب ہے اور بیماری پھیلی ہوئی ہے۔

اس موقع پر مختلف مشورے پیش ہوئے اور آگے سفر جاری رکھنے یا یہاں سے واپس ہونے میں بحث تہیث ہوئی۔ آخر کار بقول مورخین عبد الرحمن بن عوفؓ کے مشورہ اور قول کو ترجیح دی گئی اور حضرت عمرؓ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔

۱۔ ”تاریخ طبری“ ص ۵۷، ج ۴، تحت خروج عمرؓ الی الشام۔ طبع جدید، مصر
۲۔ ”تاریخ طبری“ ص ۵۷، ج ۴، تحت خروج عمرؓ الی الشام، طبع جدید، مصر

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ذیل فرمان نبوی ﷺ سب حضرات کے سامنے بیان کیا کہ انجناب ﷺ کا ارشاد ہے کہ کسی شہریا علاقہ میں بیماری کی وبا معلوم کرو تو اس مقام میں مت جاؤ اور جہاں تم مقیم ہو وہاں وبا پھیل جائے، وہاں لے بھاگ کر مت نکلو۔

اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه - واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فرارا منه الخ
حضرت عمر فاروقؓ نے یہ حدیث مبارک سن کر فرمایا:

فله الحمد - انصرفوا ايها الناس! فانصرف بهم -

مختصر یہ ہے کہ اس مسئلہ پر جناب عبدالرحمنؓ کے قول پر فیصلہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروقؓ اور ان کے ہم سفر حضرات مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لائے اور لشکروں کے امراء حضرات اپنے اپنے علاقہ جات کی طرف حسب موقعہ ہدایات لے کر واپس ہوئے۔ واقعہ ہذا کے ذریعہ سے واضح ہوا کہ یزید بن ابی سفیانؓ اپنے منصب کے لحاظ سے ایسے مراحل میں شامل ہوتے اور ضروری مجالس میں شرکت کرتے تھے اور ملی خدمات سرانجام دینے میں پیش پیش رہتے اور فروغ اسلام کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔

(۱۶)

وفات

یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عہد خلافت میں ملک شام کے بعض علاقوں کا والی مقرر فرمایا تھا۔ جیسا کہ ماقبل میں بیان

لے تاریخ طبری ص ۵۸، ج ۴، تحت خروج عمرالی الشام، طبع جدید مصر

ہوا۔ اپنے عہد ولایت کے دوران دیگر صحابہ کرامؓ کی معیت اور رفاقت کے ساتھ بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ یرموک، اجنادین، اردن، فلسطین، حمص اور قیساریہ وغیرہ مقامات میں ان کے فاتحانہ کارنامے ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان ایام میں دمشق کو فتح کر کے اسے اپنا مرکز قرار دیا ہوا تھا اور وہاں اقامت پذیر تھے۔ اتفاق سے اس علاقے میں طاعون (عمواس) کی وبا پھیل گئی جس میں متعدد صحابہ کرامؓ حضرت ابو عبیدہؓ اور معاذ بن جبلؓ وغیرہم کا انتقال ہوا اور یزید بن ابی سفیانؓ نے بھی دمشق میں اسی مرض سے ۱۸ھ میں وفات پائی، اور بعض مورخین نے اس طرح بھی لکھا ہے کہ یزید بن ابی سفیانؓ کا انتقال دمشق میں فتح قیساریہ کے بعد ۱۹ھ میں ہوا، اور ان سے آگے ان کی نسل نہیں جاری ہوئی، اور حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ

یزید بن ابی سفیانؓ کی وفات کی خبر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کو پہنچی تو آپ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کو ان کے برادر یزید کی جگہ ملک شام کا امیر اور حاکم مقرر کر کے حکمنامہ شام روانہ کیا اور پھر حضرت ابو سفیانؓ کو ان کے فرزند یزیدؓ کی وفات پر تعزیت کی اور یزیدؓ کی جگہ ان کے برادر خورد حضرت معاویہؓ کو امیر مقرر کرنے کی خبر دی، تو حضرت ابو سفیانؓ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ نے صلہ رحمی کا تقاضا پورا کیا ہے اور قرابت داری کا لحاظ رکھا ہے۔

فلما مات یزید بن ابی سفیان سنہ بضع عشرہ
جاء البرید عمرؓ بموتہ رد عمرؓ البرید الی الشام
بولایۃ معاویہؓ مکان اخیہ یزید ثم عزی
ابا سفیان فی ابنہ یزید فقال یا امیر المومنین!
من ولیت مکانہ؟ قال اخوہ معاویہؓ قال وصلت

رحما" یا امیر المومنین ہے۔

اور علامہ الذہبیؒ نے مضمون ہذا کو عبارت ذیل ذکر کیا ہے۔

ثم توفي يزيد فنعاه عمرؓ الى ابي سفيانؓ فقال
ومن امرت مكانه - قال معاويه - فقال وصلتك

يا امير المومنين رحمؓ وقال خليفه ثم جمع
عمر الشام كلها معاويه واقره عثمانؓ

یعنی خلیفہ ابن خیاط لکھتے ہیں کہ یزید بن ابی سفیانؓ کے انتقال کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ نے شام کا تمام علاقہ حضرت معاویہؓ کے زیر تحویل کر دیا پھر حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت معاویہؓ کو اس منصب پر بر حال رکھا۔

اور علامہ الذہبیؒ نے اپنی تصنیف سیر اعلام النبلاء کے دوسرے مقام میں اس مسئلہ کو بالفاظ ذیل درج کیا ہے۔

وتوفي يزيد في الطاعون سنة ثمانى عشره -
ولما احتضر استعمل اخاه معاويه على عمله
فاقره عمرؓ على ذلك احتراماً ليزيد وتنفيذاً
لتوليته

۱- ("البدایہ والنہایہ لابن کثیر" ص ۱۱۸، ۱۲۴، ج ۸، تحت ترجمہ معاویہ بن ابی سفیانؓ)

۲- تاریخ ابن عساکر، عکسی، ص ۳۱۳، ج ۱۸، تحت یزید بن ابی سفیان)

۳- فتوح البلدان، للبلاذری، ص ۱۳۷، تحت امر للسلطن)

۴- ("سیر اعلام النبلاء للذہبی، ص ۸۸، ج ۳، تحت ترجمہ معاویہ بن ابی سفیانؓ)

۵- ("سیر اعلام النبلاء للذہبی" ص ۲۳۸، جلد اول تحت ترجمہ یزید بن ابی

سفیانؓ)

یعنی ۱۸ھ والے طاعون (عمواس) میں یزید بن ابی سفیانؓ کا انتقال ہو گیا، اور جب یزیدؓ کی وفات قریب ہوئی تو اس نے اپنے منصب و مقام پر اپنے برادر معاویہؓ کو عامل بنایا۔

پھر حضرت عمرؓ کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے یزیدؓ کی تولیت کے نفاذ کے احترام کرتے ہوئے معاویہؓ کو اسی منصب پر فائز رکھا اور تبدیل نہیں کیا۔ مندرجہ بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ یزید بن ابی سفیانؓ کا حضرت عمرؓ کے نزدیک بہت اہم مقام و احترام تھا، اور آنجنابؓ نے یزید کی صلاحیت اور اسلامی خدمات کی قدر دانی کے پیش نظر یہ صورت اختیار فرمائی۔

”حاصل کلام“

حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کے متعلق مختصر سا اجمالی تذکرہ ناظرین کرام کی خدمت میں گزشتہ سطور میں پیش کیا ہے اس پر انصاف کے ساتھ نظر فرمائی جائے۔

(۱) .

جناب یزید بن ابی سفیانؓ نسب کے اعتبار سے بہترین شرف کے حامل ہیں کہ حضرت ام المومنین ام حبیبہؓ کے علاقائی (سوتیلے) برادر ہیں اور حضرت امیر معاویہؓ کے بھی سوتیلے برادر کلاں ہیں۔

(۲)

حضرت یزید بن ابی سفیانؓ اسلام لانے کے بعد بلا تاخیر ملی کارناموں میں مصروف ہو گئے تھے اور اولاً اسلامی غزوات میں شریک ہو کر دیگر صحابہ کرامؓ کی

طرح غنائم سے وافر حصہ حاصل کیا اور ان سے مستفیع ہوئے۔

غزوہ حنین کے شرکاء کے لیے قرآن مجید میں ان کے استعجاب کثرت پر تنبیہ کا ذکر ہے لیکن پھر ساتھ ہی اللہ کریم جل مجدہ کی جانب سے اپنے پیغمبر کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مومنین پر نزول سیکھنے بیان فرمائی گئی ہے اور غیر مرئی (نوح ملائکہ) کے نزول کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے عمدہ فضیلت مذکور ہے۔

اور جو صحابہ کرامؓ اس وقت غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے ان میں یزید بن ابی سفیانؓ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان اور ان کے برادر خورد حضرت امیر معاویہؓ ہر سہ ۳ حضرات شامل و شریک تھے۔

فلہذا یہ حضرات بھی اس موقع کی خیر و برکت اور فضیلت کی اشیاء سے کاملاً مستفیع ہوئے۔

(۳)

حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کو کاتبان نبوی ﷺ میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا اور منصب کتابت سے نوازے گئے۔

(۴)

اور عمد نبوی ﷺ میں بعض قبائل کے لیے امیر و عامل بنائے گئے۔

(۵)

نیز عمد رسالت میں ان پر پورا اعتماد کیا جاتا تھا اور آپؐ ایک اہم ذمہ دار شخصیت تھے۔ اس بنا پر جناب نبی کریم ﷺ کے ملاقاتیوں کو بعض دفعہ ان کے پاس ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ اعزاز بھی یزید بن ابی سفیانؓ کو حاصل ہوا۔

(۶)

روایت حدیث نبوی ﷺ کی فضیلت بھی ان کو حاصل ہوئی اور اس شرف سے مشرف ہوئے۔

(۷)

علاقہ شام میں افواج اسلامی کے امیر بن کر فتوحات کثیرہ کے باعث ہوئے اور وہاں فروں اسلام کے لیے بے شمار اہم خدمات سرانجام دیں، اور اشاعت دین کا اہتمام کیا۔ ان چیزوں کا ذکر تاریخی کتب میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، اور مختصر سے حالات ہم نے بھی ذکر کر دیے ہیں۔ دور صدیقی اور دور فاروقی دونوں ایام میں جناب موصوف کے ملی کارنامے قابل ستائش ہیں۔

(۸)

دین اور اسلام کے احیاء اور فروغ میں ہی جناب ”یزید الخیر“ کی زندگی کا خاتمہ بالخیر ہوا اور طاعون کی بیماری سے شرف شہادت حاصل کیا۔ رضی اللہ عنہ
خلاصہ یہ ہے کہ اول سے آخر تک اپنی تمام عمر انہوں نے دینی خدمات میں اور اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے صرف کر دی۔ یہ بخت اور نصیب انہی حضرات کا حصہ تھا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) لہذا یہ حضرات اسلام میں اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے مرح و ستائش کے لائق ہیں نہ کہ نفرین و مذمت کے قابل۔ اور ان تمام امور فضیلت اور ملی کارناموں کے باوجود اگر بعض لوگوں کو یہ حضرات اسلام کے دشمن نظر آتے ہیں تو یہ ان کی نظر و فکر کا قصور ہے یہ مجاہدین اسلام کا قصور نہیں۔ خوب غور فرمادیں۔

مختصر سوانح

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا

حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا

نام و نسب: حضرت ابو سفیان (مخ) بن حرب رضی اللہ عنہ کی ایک خوش نصیب دختر رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ ہیں جو اپنی کنیت ام حبیبہ کے ساتھ معروف ہیں۔

جناب بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت زوجیت کی بنا پر انہیں ”ام المؤمنین“ ہونے کا شرف عظیم حاصل ہے۔

کتابچہ ہذا کی ابتدا میں جناب ام حبیبہؓ کا اجمالی تذکرہ آچکا ہے لیکن یہاں کتابچہ کے آخر میں ذرا تفصیل سے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کی عمہ (پھوپھی) تھیں۔

اور ام حبیبہؓ ”یزید بن ابی سفیان“ اور معاویہ بن ابی سفیانؓ کی سوتیلی بہن تھیں۔ (اہل علم کی اصطلاح میں اسے علاقائی خواہر کہتے ہیں۔)

لے ”طبقات ابن سعد“ ص ۶۸، ج ۸، تحت ترجمہ ام حبیبہؓ (طبع لیدن)

عقد اول

ام حبیبہؓ کا نکاح اولاً عبید اللہ بن جحش سے ہوا اور ان سے ایک دختر حبیبہؓ متولد ہوئی اسی بنا پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہے۔

حضرت ام حبیبہؓ قدیم الاسلام تھیں۔ جس وقت مسلمانان مکہ کی ایک جماعت نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ام حبیبہؓ اپنے زوج عبید اللہ بن جحش کے ہمراہ ہجرت حبشہ اولیٰ میں شریک ہوئیں۔

حبشہ پہنچ کر کچھ مدت کے بعد عبید اللہ بن جحش اسلام سے منحرف ہو کر نصرانی ہو گیا اور اس کے بعد حبشہ ہی میں فوت ہو گیا۔

مگر ام حبیبہؓ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ان کے ایمان و یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔

عقد ثانی

عبید اللہ بن جحش کے انتقال کے بعد جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمری کے ذریعے محرم ابتداء ۷ھ میں نجاشی کے ہاں حبشہ میں ام حبیبہؓ سے نکاح کے لیے پیغام ارسال فرمایا۔

احمد بادشاہ حبشہ النجاشی نے اپنی ایک خادمہ مسماة ابرہ کے ذریعے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ام حبیبہؓ کو پہنچایا اور کہا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو اپنا وکیل نکاح مقرر کریں۔ چنانچہ ام حبیبہؓ نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہی خاندان سے قریبی رشتہ دار خالد بن سعید بن العاص بن امیہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔

۱۔ (”سیر اعلام النبلاء للذہبی“ ص ۱۵۶، ج ۲، تحت ام حبیبہؓ)

اس پر نجاشی نے حضرت ام حبیبہؓ کا نکاح چار صد دینار حق مہر کے عوض جناب نبی اقدس ﷺ سے کر دیا اور حق مہر کی رقم اپنی طرف سے ادا کی اور پھر ام حبیبہؓ کو بعض مورخین کے قول کے مطابق جناب شریحیل بن حسنہؓ کے ہمراہ جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مدینہ طیبہ روانہ کیا۔

اور بقول بعض علماء (مثلاً ابن حبان) کے بیان کے مطابق حضرت ام حبیبہؓ کی ارض حبشہ سے رخصتی ہاشمی بزرگ جناب جعفر بن ابی طالبؓ کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ حضرت جعفرؓ نے جناب ام حبیبہؓ کو نبی اقدس ﷺ کی خدمت میں پہنچایا۔

فخرت ام حبیبہؓ مع جعفر بن ابی طالبؓ من ارض الحبشہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(واضح ہو کہ جناب ابوسفیان ماحال اسلام نہیں لائے تھے۔)

اس واقعہ کی تفصیلات کے لیے مقامات ذیل کی طرف اہل علم رجوع کر سکتے ہیں۔

- ۱- "طبقات ابن سعد" ص ۶۹-۷۰، ج ۸، تحت ام حبیبہؓ، طبع لیدن۔
- ۲- "میرة طیبہ لعلی بن برہان الدین الحلیمی" ص ۵۷-۵۸، ج ۳، تحت احوال خیر، طبع مصر۔
- ۳- "البدایہ لابن کثیر" ص ۱۳۳-۱۳۴، ج ۴، تحت تزویج ام حبیبہؓ
- ۴- "مسند امام احمد" ص ۴۲۷، ج ۶، تحت حدیث ام حبیبہؓ
- ۵- "التاریخ لابن عساکر کامل" ص ۷۳-۷۵، جلد تراجم النساء، طبع دمشق۔ (تحت رملہ بنت ابی سفیان)
- ۶- زرقاتی شرح مواہب اللدنیہ، ص ۲۳۳-۲۳۴، ج ۳، تحت ام حبیبہؓ

لے "سیر اعلام النبلا للذہبی" ص ۱۵۶، جلد ثانی تحت ام حبیبہؓ

سے "کتاب الثقات لابن حبان" ص ۱۴۰، ج ۲، تحت ذکر ام حبیبہؓ و میمونہؓ (طبع دکن)

بعض فضائل

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے فضل و شرف کی چیزوں میں علماء کرام نے ایک بات تو یہ ذکر کی ہے کہ:

وهی من بنات عم الرسول صلی اللہ علیہ
وسلم لیس فی ازواجه من ہی اقرب نساء الیہ
منہا۔^۱

یعنی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیالی خاندان میں سے
جناب کی ازواج مطہرات میں ام حبیبہ "سب ازواج سے نسبتاً زیادہ
قریب ہیں اور دیگر ازواج مطہرات باعتبار قبیلہ کے اتنی قریب نہیں جتنا
قدر کہ ام حبیبہ "نزدیک تر تھیں۔"

یعنی ام حبیبہ "کا سلسلہ نسب: ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن
عبدالشمس بن عبدمناف ہے اور جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب
مبارک بھی اس طرح ہے کہ ہاشم کے والد عبدمناف ہیں۔ گویا عبدمناف دادا
مشترک ہیں۔ جبکہ دیگر اہمات المؤمنین کو آبائی نسل و نسب سے اس طرح کا قرب
حاصل نہیں۔"

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حق میں دو سری چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ:

○ ولافی نسائہ من ہی اکثر صداقا" منہا۔

یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے

۱۔ سیر اعلام النبلاء، للذہبی، ص ۱۵۵، ج ۲، تحت حالات ام المؤمنین ام حبیبہ (ع)
۲۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی، ص ۱۵۵، ج ۲، تحت ام حبیبہ "ام المؤمنین۔"

جتنا قدر زیادہ حق مہر حضرت ام حبیبہؓ کا تھا اتنی مقدار کسی دیگر زوجہ محترمہ کا حق مہر مقرر نہیں ہوا۔
یہ بات بھی ان کے لیے بہت فخر اور شرف کی شمار کی جاتی ہے۔

احترام نبوی ﷺ

حضرت ام حبیبہؓ کو اپنے پیغمبر کریم ﷺ کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا اور مدینہ طیبہ میں آپؐ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ اقامت پذیر ہوئیں، اور جو فضائل و کمالات ازواج مطہرات و امہات المؤمنین کو حاصل ہیں ان میں ان کو شمولیت نصیب ہوئی۔ ام المؤمنین ام حبیبہؓ (رضی اللہ عنہا) نہایت شریف الطبع نیک مزاج باوقار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپؐ کو جناب نبی کریم ﷺ کے ساتھ انتہائی عقیدت تھی اور آپؐ بہت بڑی خدمت گزار اہلیہ تھیں۔

احترام نبوی ﷺ کے سلسلہ میں ایک واقعہ اہل سیرت و التاريخ نے ذکر کیا ہے جس میں ان کے جوش ایمان کا منظر پایا جاتا ہے۔

حضرت ابو سفیانؓ تاحال اسلام نہیں لائے تھے کہ انہیں ایک بار مدینہ منورہ آنے کا اتفاق ہوا۔ اس موقع پر آپؐ اپنی دختر ام حبیبہؓ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے اور مکان کے اندر نبی اقدس ﷺ کے بچھے ہوئے بستر مبارک پر بیٹھنے کا قصد کیا، تو جناب ام حبیبہؓ (رضی اللہ عنہا) فوراً انھیں اور فرانش نبوی ﷺ کو پلیٹ دیا اور اپنے والد کو کہنے لگیں: یہ نبی اقدس ﷺ کا فرش ہے اور آپؐ مشرک اور نجس ہیں اس لیے اس بستر مبارک پر نہیں بیٹھ سکتے..... (الخ) اس پر ابو سفیان برہم ہوئے اور کہا کہ ہمارے پاس سے آنے کے بعد تجھے شر لاحق ہو گیا ہے یعنی تیرا مزاج خراب ہو گیا ہے۔

فدخل علی ابنتہ ام حبیبہؓ فلما ذهب

ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم
طوته دونه، فقال يا بنيه أرغبت بهذا الفراش
عنى أم بى عنه فقالت بل هو فراش رسول الله
وانت امرء نجس مشرك - فقال يا بنيه لقد
اصابك بعدى شرى

خیبر کی آمدنی سے حصہ

۷ھ کی ابتدا میں خیبر فتح ہوا۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ سے واپس تشریف لائیں تھیں۔

جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی آمدنی میں سے دیگر ازواج مطہرات کے
مطابق اسی (۸۰) وسق کھجور اور بیس وسق جو جناب ام حبیبہ کو عنایت فرمائے۔
وسق اس دور کا ایک پیانہ تھا جو ساٹھ صاع کے برابر تھا، اور صاع قریباً ساڑھے تین
سیر کے مساوی تھا۔

ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ:

واطعم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ بنت ابی
سفیان بخبیر ثمانین وسقاً تمرًا وعشرین وسقاً
شعیراً۔

۱۔ ”طبقات ابن سعد“ ص ۷۰، ج ۸، تحت ام حبیبہ (طبع لیڈن)

۲۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر، ص ۲۸، ج ۸، تحت سنہ ۵۴۳

۳۔ الاصابہ معد الاستیعاب، ص ۲۹۹، ج ۴، تحت رملہ بنت ابی سفیان

۴۔ التاریخ لابن عساکر، ص ۹۰، تراجم النساء، تحت رملہ بنت ابی سفیان (طبع دمشق)

۵۔ سیر اعلام النبلا للذہبی، ص ۱۵۸، جلد ثانی

۷۔ ”طبقات ابن سعد“ ص ۷۱، ج ۸، تحت ام حبیبہ (طبع لیڈن)

روایت حدیث

خوش بخت جناب ام حبیبہؓ کو شرف زوجیت نبوی ﷺ نصیب تھا اور آپ صحت نبوی ﷺ سے مستفیض ہوتی تھیں، اور دینی مسائل حاصل کرتی تھیں۔ چنانچہ دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت ام حبیبہؓ نے بھی بہت سی احادیث اور فرمودات نبوی ﷺ امت مسلمہ کے لیے نقل فرمائے ہیں۔

آپ سے روایت حدیث نقل کرنے والوں میں متعدد صحابہ کرامؓ اور تابعین حضرات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کے برادر حضرت امیر معاویہؓ عتبہ بن ابی سفیانؓ اور ام حبیبہ کی دختر حبیبہ بنت عبد اللہ اور حضرت انس بن مالکؓ وغیرہم۔ لے نقل حدیث کی فضیلت میں جناب ام حبیبہؓ کا حصہ وافر موجود ہے۔ بقول بعض علماء ان سے (۶۵) روایات مروی ہیں۔ اللہ اعلم۔

اتباع سنت

حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں جناب ام حبیبہؓ کے والد گرامی حضرت ابوسفیانؓ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے اور یہاں علی اختلاف الاقوال ۳۱ھ میں آن موصوف کا انتقال ہوا۔

جب حضرت ام حبیبہؓ کو اپنے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ نے اتباع سنت کے موافق صرف تین یوم سوگ منایا اور تیسرے دن خوشبو منگوا کر اسے استعمال کیا۔

۱- "مسند امام احمد" ص ۳۲۵، ۳۲۵، ج ۶، تحت حدیث ام حبیبہؓ

۲- التاريخ لابن عساکر، ص ۷۴-۷۵، جلد تراجم النساء، طبع دمشق

۳- اسد الغابہ لابن اثیر، ص ۴۵۸، ج ۵، تحت رملہ بنت ابی سفیانؓ

۴- زر قافی، شرح مواہب اللدنیہ، ص ۲۴۵، ج ۳، تحت ام حبیبہؓ

اور فرمایا کہ میں نے جناب نبی اقدس ﷺ سے سنا ہے کہ آنجناب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جو خاتون اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ (حداد) سوگ کرے، مگر جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہو اسے چار ماہ دس دن سوگ کرنے کی اجازت ہے۔“

ان ام حبیبہؓ لَمَّا جَاءَهَا نَعَى ابِيهَا دَعَتْ بِطَيْبٍ
فَمَسَحَتْ ذُرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَالِي بِالطَّيِّبِ مِنْ
حَاجَةِ لَوْلَانِي سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ
لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَّ عَلَيَّ مِيتٍ
فَوْقَ ثَلَاثِ الْاَعْلَى زَوْجِ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَعِشْرَةَ اَيَّامٍ

مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت کا لحاظ اور فرمان نبوت کی رعایت کرنا ان حضرات کے لیے مقصد حیات تھا اور ہر مرحلہ پر اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے۔
امت مسلمہ کے حق میں ان شرعی مسائل پر عمل درآمد کرنے کی یہ تعلیم و تلقین موجود ہے۔

د مشق روانگی

نبی اقدس ﷺ کے انتقال کے بعد آں محترمہ کی اقامت عموماً مدینہ طیبہ میں رہی۔

-
- ۱- ”جمع الفوائد من جامع الاصول“ ص ۳۱۵، ج ۱، تحت العدة والاشترء الاحاد (الخ)
۲- بخاری شریف، ص ۸۰۳-۸۰۴، ج ثانی، کتاب النکاح، باب تحد المتوفى عنها... الخ
۳- طبقات ابن سعد، ص ۷۰، ج ۸، تحت ام حبیبہ ”طبع لیدن“
۴- مسند الحمیدی، ص ۱۳۶، ج ۱، تحت احادیث ام حبیبہ

لیکن بقول بعض مورخین بعض دفعہ حضرت موصوفہ نے دمشق کی جانب سفر اختیار کیا وہاں ان کے برادر حضرت امیر معاویہؓ مقیم تھے ان کی ملاقات پیش نظر تھی۔ چنانچہ ابن عساکر نے لکھا ہے۔

وقدمت دمشق زائره لاحبها معاویہؓ^۱۔

حقوق العباد کا لحاظ اور فکر آخرت

جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے حضرت ام حبیبہؓ عام طور پر مدینہ منورہ میں اقامت پذیر رہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب عمر آخر ہو گئی اور انتقال قریب ہوا تو فکر آخرت کی بنا پر آنمو صوفہؓ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کو اپنے ہاں بلایا اور کہا کہ:

الضرائر (سوکنوں) کے درمیان جو کچھ واقع ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے درمیان بھی ہوتا رہا، (آپؓ ان چیزوں سے درگزر فرمائیں) تو حضرت صدیقہؓ نے فرمایا:

”اللہ کریم آپ کو اور مجھے معاف فرمائیں میں نے ان تمام باتوں سے درگزر کیا اور تجھے معاف کر دیا۔“

جناب ام حبیبہؓ فرمانے لگیں کہ ”تم نے مجھے خورسند اور خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔“

پھر اسی طرح حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں ام حبیبہؓ نے پیغام ہذا ارسال کیا تو انہوں نے بھی باہمی معافی کر دینے کا جواب بھیجا۔

قال سمعت عائشہ تقول دعتنی ام حبیبہؓ زوج

۱۔ ابن عساکر، ص ۷۰، جلد تراجم النساء، طبع دمشق)

۲۔ میراعلام النبلا للذمبی، ص ۱۵۵، ج ۲، تحت ام حبیبہؓ)

النسبی رضی اللہ عنہ عند موتہا فقالت قد کان یكون
 بیتا و بین الضرائر فغفر الله لی و لک ما کان من
 ذالک فقلت غفر الله لک ذالک کله تجاوزت
 و حاللتک من ذالک۔ فقالت سررتنی سرک
 الله و ارسلت الی ام سلمه فقالت لها مثل
 ذالک لے

واقعہ ہذا جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے کمال تقویٰ اور خشیت الہی پر دال ہے،
 اور اہل اسلام کے لیے اس میں دوسرے شخص کے حقوق کی رعایت کا سبق دیا گیا
 ہے، اور یہاں سے یہ مسئلہ مستفاد ہوتا ہے کہ فوت ہونے والے مسلمان کو اپنے
 حقداروں سے حقوق کی معافی کرائی چاہیے۔

نیز مرنے کے بعد دیگر تعلق داروں کو میت کی خطاؤں سے درگزر کرنا اور
 معاف کر دینا بہتر طریق ہے تا کہ فوت ہونے والے کی آخرت کا معاملہ صاف ہو
 جائے۔

وفات

اس کے بعد ۴۴ھ میں مدینہ طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ زمانہ ان کے
 برادر حضرت معاویہؓ کا دور خلافت تھا۔ بقول بعض اہل تاریخ جناب ام حبیبہؓ کی
 عمر اس وقت قریباً ۷۳ برس کی تھی۔

۱- "طبقات ابن سعد" ص ۷۱، ج ۷، تحت ام حبیبہ (طبع لیدن)

۲- البدایہ لابن کثیر ص ۲۸، ج ۸، تحت سنہ ۴۴ھ، طبع اول، مصری

۳- تاریخ لابن عساکر، ص ۹۲، جلد تراجم النساء، تحت رملہ بنت ابی سفیان (؟)

۴- سیر اعلام النبلاء ص ۱۵۹، جلد ثانی، تحت ام حبیبہ (؟)

جنت البقیع میں مدفون ہوئیں اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا مزار ہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین)

۱- و توفیت سنہ اربع و اربعین فی خلافہ معاویہ بن ابی

سفیان

۲- قال ابو عبید القاسم بن سلام توفیت ام حبیبہ

سنہ اربع و اربعین۔

اختتامی کلمات

کتابچہ ہذا میں مشہور صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان (الیہ ہند بنت عقبہ، نامور فرزند یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا) کے چند احوال اور مختصر سوانح پیش کیے ہیں، اور حوالہ جات ساتھ ساتھ ذکر کر دیئے ہیں۔

ناظرین کرام کی خدمت میں التماس ہے کہ مندرجہ احوال پر نظر فرما کر غور فرمائیں کہ ان حضرات کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کیا کچھ دینی خدمات سرانجام دی ہیں؟ اور اپنے پیغمبر کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت اور غلامی میں کس طرح اپنی تمام زندگی صرف کر دی؟ اور اشاعت اسلام کے لیے کس قدر مساعی فرمائیں؟ اور ملی کارناموں کو کس قدر فروغ بخشا؟ یقیناً یہ حضرات کتاب و سنت کی رو سے مخلص مومن اور باکردار متقی عادل مسلمان اور ہدایت یافتہ شخصیات ہیں۔

لئے ”طبقات ابن سعد“، سعد ۱، ج ۷، تحت ام حبیبہ

۱- البدایہ لابن کثیر ص ۱۳۵، ج ۴، تحت فصل فی تزویج النبی (الخ)

۲- تاریخ ابن عساکر، ص ۷۰، جلد تراجم النساء، طبع دمشق

مخالفین احباب حضرت ابو سفیانؓ اور ان کی اہلیہؓ اور ان کی اولاد پر بہت کچھ نقد و اعتراضات حتیٰ کہ تہرا تک کیا کرتے ہیں اور ”بجگانہ نماز کے بعد سب و شتم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض تاریخی روایات کی بنا پر ان حضرات کے خلاف پروپیگنڈا اور نقد و اعتراض کرنا اور اہل اسلام میں ان کے خلاف تنفر پھیلانا ہرگز روا نہیں۔ کتاب و سنت کے ارشادات کے بالمقابل تاریخی روایات کی کوئی حیثیت وزن نہیں۔ تاریخ کے ملفوظات میں بیشتر جھوٹ دروغ گوئی اور افتراء پایا جاتا ہے اور بے سرو پا واقعات درج ہوتے ہیں۔ یہاں توجہ کے قابل یہ چیز ہے کہ سید دو عالم ﷺ کا معاملہ قولاً و عملاً ان حضرات کے ساتھ کس طرح تھا؟ اور آنجناب ﷺ نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا؟ بس یہ چیز فیصلہ کن و معیار حق ہے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ نیز سردار دو جہاں ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے فوت شدگان کو گالی مت دو اور برا بھلا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اس کی طرف وہ پہنچ چکے ہیں۔

لاتسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ رواہ البخاری۔^۱

اور امت مسلمہ کو ہدایت فرمائی کہ:

اذ مات صاحبکم فدعوہ (بحوالہ ترمذی و دارمی)^۲

یعنی جب ایک تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو۔ (اس کی برائی

مت کرو۔)

اہل اسلام کے لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری امر ہے، اور ان

۱۔ ”مشکوٰۃ شریف“ ص ۱۳۵، باب المشی باجنازة والصلوة علیہا۔

۲۔ ”مشکوٰۃ شریف“ ص ۲۸۱، الفصل الثانی باب عشرة النساء والکل واحد من الحقوق۔

۳۔ السنن للدارمی، ص ۲۹۲، باب فی حسن معاشرۃ النساء۔

فرمودات پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ ورنہ عاقبت برباد ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔

من آنچه شرط بلاغ است بنا تو میگویم
تو از سحتم پند گیر خواه ملال

آخری گزارش

جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑے ابتلاء اور امتحان و آزمائش کا دور ہے۔ مسائل میں افراط و تفریط حد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سلف صالحین کے طریقہ پر قائم رہنا ایک امر مشکل بن گیا ہے۔ بنا بریں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھا گیا ہے کہ یہ جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مدائح و سوانح اور ملی خدمات تحریر کیے جا رہے ہیں یہ جمہور اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کے مطابق ذکر کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک جناب نبی کریم ﷺ کی اولاد شریف سمیت تمام صحابہ کرام معزز محترم ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت مندی عین ایمان ہے۔ ان کی اقتداء و اتباع کرنا متاع اسلام ہے۔ قیامت میں ان کی اُخروی معیت حاصل ہو جانا عظیم سعادت ہے۔

ان تحریرات میں کسی طبقہ کی ”جانب داری“ ہمیں مقصود نہیں اور نہ ہی ”قبیلہ نوازی“ پیش نظر ہے۔ نہ ہی اس دور کا ”جماعتی تحزب“ سامنے ہے اور نہ کسی سے شاباش حاصل کرنا مقصود ہے۔ ہمارا یہ کام محض رضائے الہی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دفاع کے طور پر ہے۔ لہذا ہماری اس کاوش سے غلط مقاصد ہرگز نہ لیے جائیں۔ آخر میں اپنے مالک کریم جل شانہ سے التجا ہے کہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور شفاعت انبیاء علیہم السلام و سفارش صلحاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم

جمعین سے مستمع فرمائے۔

واخیر دعونا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله
تعالى على خير خلقه وحبیبه وعلى اله واصحابه
وصلحاء امتہ اجمعین

(شعبان المعظم ۱۴۱۳ھ، جنوری ۱۹۹۳ء)

دعاجو ناچیز محمد نافع عفا الله عنه .

محمدی شریف، ضلع جھنگ، پنجاب پاکستان

فہرست کتب استفادہ نمودہ برائے کتابچہ

حضرت ابوسفیانؓ اور ان کی اہلیہ

سنہ توفی / تالیف	اسماء کتب
۵۱۸۲	۱- کتاب الخراج لامام ابی یوسفؒ
۵۲۱۱	۲- المصنف عبد الرزاق
۵۲۱۳-۱۸	۳- سیرۃ ابن ہشام (ابو محمد عبد الملک بن ہشام الممیری)
۵۲۲۳	۴- کتاب الاموال لابی عبید القاسم بن سلام
۵۲۳۰-۳۵	۵- طبقات ابن سعد ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی
(۵۲۳۶)	۶- نسب قریش لمصعب الزبیری (المصعب بن عبد اللہ بن المصعب الزبیری)
۵۲۴۰	۷- تاریخ خلیفہ ابن خیاط ظاہر عمرو خلیفہ ابن خیاط
۵۲۴۵	۸- کتاب الحیر لابن جعفر محمد بن حبیب بن امیہ بغدادی
۵۲۵۶	۹- صحیح بخاری شریف لامام محمد بن اسماعیل بخاری (طبع نور محمدی)
۵۲۶۰-۶۱	۱۰- صحیح مسلم شریف لامام مسلم بن حجاج القشیری
۵۲۷۷	۱۱- المعروفہ والتاریخ لابن یوسف یعقوب بن سفیان البسوی
۵۲۷۷-۷۹	۱۲- فتوح البلدان احمد بن یحییٰ البلاذری
۵۳۱۰	۱۳- تاریخ طبری (محمد بن جریر ابی جعفر طبری)
۵۳۵۶	۱۴- جوامع السیرۃ لابن حزم
۵۳۵۸	۱۵- السنن الکبریٰ بیہقی (لابی بکر احمد بن الحسین البیہقی)
۵۳۶۳	۱۶- کتاب الکفایۃ للعلی بن ابی طالب بغدادی

- ١٤- الاستيعاب لابن عبد البر اندلسي مع اصحابه ٥٢٦٣
- ١٨- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاظمي عياض القرن السادس ٥٥٣٣
- ١٩- مختصر تاريخ ابن عساكر عبد القادر (ابن بدران) ٥٥٤١
- ٢٠- اسد الغابه في معرفة الصحابه لابن اثير جزري ٥٦٣٠
- ٢١- جامع الاصول لابن اثير الجزري
- ٢٢- تهذيب الاسماء اللغات للتواوي (الشيخ محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف) ٥٦٤٦
- ٢٣- مكنوة شرف (ولي الدين خطيب تيرزي من تأليف) ٥٤٣٤
- ٢٣- تاريخ الاسلام للذمسي (حافظ ابو عبد الله بن عثمان الذمسي) ٥٤٣٨
- ٢٥- سير علاج النبلاء للذمسي ٥٤٣٨
- ٢٦- المستقى للذمسي ٥٤٣٨
- ٢٤- العبر في خبر من غير للذمسي ٥٤٣٨
- ٢٨- الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (احمد بن عبد العظيم) ٥٤٣٨
- ٢٩- تفسير القرآن العظيم لاسماعيل ابن كثير دمشقي ٥٤٤٣-٤٥
- ٣٠- البدايه والنهايه لابن كثير عماد الدين الدمشقي ٥٤٤٣-٤٥
- ٣١- شرح مسلم الكمال الكمال المعلم شرح مسلم لامام ابى عبد الله محمد بن خلفه الوشائى الابى لماكلى ٥٨٢٤-٢٨
- ٣٢- الطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني ٥٨٥٢
- ٣٣- الاصابه في تمييز الصحابه لابن حجر العسقلاني ٥٨٥٢
- ٣٣- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ٥٨٥٢
- ٣٥- شرح مسلم السنوي (الكامل الاكمال لامام ابى عبد الله بن محمد بن يوسف السنوي الحنفي) ٥٨٩٥
- ٣٦- فتح المغيبي للمغراوي شرح الفتيه الحديث للعراقي ٥٩٠٢
- ٣٤- الدر المنثور للسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) ٥٩١١
- ٣٨- الحاوي للفتاوى للسيوطي ٥٩١١
- ٣٩- خلاصه تهذيب الكمال للخزرجي (صفي الدين احمد بن عبد الله) تأليف ٥٩٢٣

- ٣٠- تاريخ الخميس تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكرى ٥٩٦٠
 ٣١- تنزيه الشريعة لابن عراق الكلثاني (علي بن محمد بن عراق الكلثاني) ٥٩٦٣
 ٣٢- الفتاوى الهدية لابن حجر المكي البيهقي (احمد بن حجر البيهقي) ٥٩٤٣-٤٥
 ٣٣- كنز العمال طبع اول دکن (علي متقی الہندی) ٥٩٤٥
 ٣٤- شرح الشفاء لعلی القاری ٥١٠١٣
 ٣٥- نسیم الریاض شرح الشفا الحنفی القاضی عیاض احمد شباب الدین الحنفی ٥١٠١٣
 ٣٦- عقيدة السفارینی (الشيخ محمد بن احمد السفارینی النبیلی) ٥١١٤٣

کتاب شیعہ

- ١- مقاتل الطالین لابی الفرج الاصفہانی الشیعی ٥٣٥٦
 ٢- تاریخ الفخری (محمد بن علی بن طباطبائی ابن فلقطی) الشیعی تألیف ٥٤٠١
 ٣- منتخب التواریخ از محمد ہاشم خراسانی الشیعی ٥١٣٥٢
 ٤- فتی الامال (از شیخ عباس قمی) الشیعی ٥١٣٥٩

مختصر سوانح مؤلف

اسم: (مولانا) محمد نافع عفا اللہ عنہ ولد حضرت مولانا عبدالغفور صاحب
 وجہ تسمیہ: حضرت مولانا محمد نافع کے والد گرامی حضرت مولانا عبدالغفور صاحب
 ۱۳۳۲ھ بمطابق ۱۹۱۳ء حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے۔

ان ایام میں حاجیوں کی سواری کے لئے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کے
 لئے اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لئے
 اونٹوں کی سواری اختیار کی اور مدینہ طیبہ کے ”نافع“ نامی ایک شخص سے ایک اونٹ کرایہ پر
 لیا۔ آپ کو اپنے اس شتر بان کا نام بہت پسند آیا۔

مولانا عبدالغفور صاحب جب حج سے واپس تشریف لائے تو قریباً ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۵ء
 میں آپ کے ہاں فرزند متولد ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس کا نام ”نافع“ تجویز کیا اور اسم ”محمد“
 تیر کا شامل کر کے ”محمد نافع“ رکھا۔

پیدائش

ایک اندازہ کے مطابق ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۵ء قریہ محمدی شریف ضلع جھنگ (پنجاب)
 (یہ تاریخ اندازاً ذکر کی گئی ہے ورنہ صحیح تاریخ پیدائش کہیں تحریر نہیں پائی گئی)

تعلیم و تربیت

آں موصوف نے اپنے والد گرامی سے ۱۳۵۲ھ بمطابق ۱۹۳۳ء میں قرآن مجید حفظ
 کیا۔ اس کے بعد ابتدائی دینی کتب کی تعلیم استاذ مولانا اللہ جویا شاہ صاحب (التونوی
 ۱۳۶۲ھ) اور اپنے برادر بزرگ حضرت مولانا محمد ذاکر سے حاصل کی۔

اور پھر اس کے بعد مدرسہ اشاعت العلوم جامع مسجد کچہری بازار لائل پور (فیصل آباد)

میں داخل ہوئے جہاں مولانا محمد مسلم صاحب عثمانی اور مولانا حکیم عبدالحمید صاحب سے فصول اکبری علم المصیغہ اور نحو میر صنفری و کبریٰ وغیرہ کتب پڑھیں۔

اسی دوران قریہ محمدی شریف ضلع جھنگ میں آپ کے برادر بزرگ حضرت مولانا محمد ذاکر نے دارالعلوم جامع محمدی شریف کی بنیاد رکھی۔

سب سے پہلے حضرت مولانا احمد شاہ صاحب بخاری فاضل دیوبند بطور صدر مدرس تشریف لائے۔

چنانچہ مولانا محمد نافع صاحب واپس گھر تشریف لائے اور مقامی دارالعلوم "جامعہ محمدی شریف" میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور

علم نحو میں ہدایۃ النحو - کافیہ المفیہ اور شرح جامی

علم فقہ میں قدوری - ہدایہ (اولین) وغیرہ

معقولات میں ایسا غوجی - مرقاۃ - شرح تہذیب - اور قطبی کا کچھ حصہ پڑھا۔

اس دوران جب جامعہ ہذا میں حضرت مولانا قطب الدین صاحب اچھالوی مدظلہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے قطبی کا باقی حصہ اور میزبانی پڑھیں۔ اور علم فقہ میں شرح وقایہ (اخیرین) اور علم بلاغت میں مختصر معانی وغیرہ کتب پڑھیں۔

مولانا شیر محمد صاحب سے نورالانوار اور شرح وقایہ (اولین) وغیرہ کتب پڑھیں۔

بعد ازاں ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء میں جامعہ محمدی شریف میں مولانا غلام احمد صاحب لاہوری کے مشہور شاگرد مولانا احمد بخش صاحب از موضع گدائی (ڈیرہ غازی خان) تشریف لائے تو ان سے آپ نے جلالین - شرح نخبۃ الفکر - ہدایہ (اخیرین) اور دیوان مثنوی وغیرہ کتب کی تعلیم حاصل کی۔

مزید حصول علم کے لئے آپ واپس پھر ان (ضلع میانوالی) تشریف لے گئے اور قریباً سات ماہ میں حضرت مولانا غلام حسین صاحب سے مشکوٰۃ شریف حمد اللہ عبدالغفور (حاشیہ شرح جامی) وغیرہ کتب پڑھیں۔

اس کے بعد ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں آپ نے موضع انی ضلع سمجرات میں مشہور استاذ مولانا ولی اللہ صاحب گجراتی (التوتنی شوال ۱۳۹۳ھ/ نومبر ۱۹۷۳ء) کا شرف تلمذ حاصل کیا

اور مختلف فنون اصول فقہ میں توضیح تلویح، مسلم الثبوت میرزا ہد ملا جلال، میرزا ہد رسالہ قطبیہ میرزا ہد امور عامہ اور قاضی مبارک اور شرح عقاید نسفی و مطول وغیرہ کتب کی تعلیم حاصل کی۔ اور آخر ۱۳۶۲ھ میں دارالعلوم دیوبند (بھارت) میں داخلہ لیا اور دورہ حدیث شریف معروف طریقہ سے مکمل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب اس مشہور دارالعلوم میں شیخ الادب و الفقه حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امر وہبی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مفتی ریاض الدین صاحب اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سینکڑوں طلباء کو علوم دینیہ کا درس دیتے تھے اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب "جیل فرنگ میں قید تھے۔

مولانا محمد نافع نے مذکورہ بالا حضرات سے دورہ حدیث پڑھا۔

چنانچہ جب آپ ۱۳۶۲ھ میں دارالعلوم دیوبند (بھارت) سے فارغ التحصیل ہوئے تو آپ کو سند فراغ ۱۳۰۵۴ سے نوازا گیا۔ یہ سند ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء میں حاصل ہوئی۔ آپ جب واپس وطن ہوئے تو اسی سال ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں اپنے مقامی دارالعلوم جامعہ محمدی میں سلسلہ تدریس شروع کیا۔

قیام پاکستان ۱۹۴۷ء کے بعد تنظیم اہل سنت والجماعت سے تعلق قائم رہا اور ردِ رافضیت کے خلاف کام کیا۔ پھر اس کے ساتھ تحقیقی اور تصنیفی کام کی طرف متوجہ ہوئے اور تنظیم اہل سنت کے ہفت روزہ جریدہ "الدعوة" میں تحقیقات نافعہ کے عنوان سے مختلف موضوعات پر مضامین تحریر کئے۔

اسی دوران آپ نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا احمد شاہ صاحب بخاری کے ماہنامہ "الفاروق" کے لئے بھی کئی مضامین مختلف موضوعات پر تحریر کئے۔

جب ۱۹۵۳ء/۱۳۷۳ھ میں تحریک ختم نبوت مرزائیت کے خلاف شروع ہوئی تو اس میں بھرپور عملی حصہ لیا اور گرفتاری پیش کی اور تین ماہ پہلے جھنگ میں پھر بورشل جیل لاہور میں گزارے۔ وہاں سے رہائی کے بعد اپنے استاذ مکرم حضرت مولانا احمد شاہ صاحب بخاری کے مشورہ اور ہدایات کے موافق کتاب "رحماء بینہم" کے موضوع پر تحقیقی کام کرنے کے لئے مواد فراہم کرنا شروع کیا۔

تالیفات

۱۔ مسئلہ ختم نبوت اور سلف صالحین

۱۹۳۵ء/۱۳۷۱ھ میں قادیانیوں کے ایک مشہور مجلہ ”الفضل“ لاہور نے ایک مستقل نمبر ”اجزائے نبوت“ پر شائع کیا تو اس کے جواب میں آپ نے ”مسئلہ ختم نبوت اور سلف صالحین“ کے نام سے کتابچہ شائع کیا جس میں مرزائیوں کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا۔

۲۔ حدیث ثقلین

مشہور حدیث شریف..... ترکت فیکم الثقلین..... الخ پر بحث کی ہے اور ”کتاب اللہ و سنتی“ کے الفاظ والی روایت کی اسانید کو جمع کیا ہے اور دونوں روایات پر عمدہ مواد جمع کر کے تحقیق ذکر کی ہے۔ یہ کتاب ۱۹۶۳ء/۱۳۸۳ھ میں تالیف کی گئی۔

۳۔ رجاء پنہم

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصاً خلفاء اربعہ کے باہم ربط و اتفاق کے سلسلہ میں ”رجاء پنہم“ کے نام سے پہلی کتاب حصہ صدیقی ۱۹۷۱ء/۱۳۹۱ھ میں تالیف کی گئی۔ دوسری کتاب حصہ فاروقی ۱۹۷۶ء/۱۳۹۶ھ اور تیسری کتاب حصہ عثمانی ۱۹۷۸ء/۱۳۹۸ھ میں تالیف کی گئی۔

اور ان ہر سہ جلد میں خلفاء اربعہ کے باہمی تعلقات نسبی کے علاوہ محبت و اخوت کے باہمی روابط کو واضح کیا گیا ہے۔ کتاب ”رجاء پنہم“ ایک مشہور علمی تحقیقی تالیف ہے۔ اس کتاب سے مؤلف کے کئی ہم عصر جدید علماء نے استفادہ کیا۔ مثلاً مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے اپنی کتاب ”تعمیر اللہم فی شرح المسلم جلد سوم میں اس کتاب کے اقتباسات نقل کئے ہیں اور حوالہ جات دیئے ہیں جس سے اس تالیف کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ مسئلہ اقربا پروری

یہ کتاب ۱۹۸۰ء/۱۴۰۰ھ میں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پر معاندین کے اقربانوازی کے طعن کے جواب میں تالیف کی گئی۔
یہ کتاب رحماء پنجم حصہ عثمانی کا ایک نکتہ ہے۔

۵۔ حضرت ابوسفیانؓ اور ان کی اہلیہ

یہ کتابچہ ۱۹۸۳ء/۱۴۰۳ھ میں تالیف کیا گیا اور اس میں حضرت ابوسفیانؓ بن حرب اور ان کی اہلیہ کے مختصر کوائف کے علاوہ ان کی اسلام میں خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔
بعد ازاں دوسرے ایڈیشن میں یزید بن ابی سفیانؓ اور حضرت ام حبیبہؓ کے تذکرہ کا اضافہ کیا گیا۔

۶۔ بنات اربعہؓ

اس تالیف میں کتاب و سنت اور جمہور علماء اہلسنت و شیعہ کی مستند کتب سے ثابت کیا گیا ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ کے چار صاحبزادیاں تھیں۔
یہ تالیف ۱۹۸۴ء/۱۴۰۴ھ میں مکمل ہوئی۔ کتاب میں چاروں صاحبزادیوں کے متعلقہ حالات و سوانح کو جمع کر دیا گیا ہے۔

۷۔ سیرۃ سیدنا علی المرتضیٰؓ

اس تالیف میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حسب و نسب کے علاوہ آں جنابؓ کی غلو عقیدت اور تقصیر شان سے بالاتر ہو کر صحیح سوانح حیات لکھنے کی سعی کی گئی ہے اور مختلف شبہات کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے۔
یہ تالیف ۱۹۸۸ء/۱۴۰۹ھ میں مکمل ہوئی۔

۸۔ سیرت سیدنا امیر معاویہؓ

صفر ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء میں یہ کتاب دو جلدوں میں تالیف کی گئی ہے۔
ایک جلد میں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیانؓ کی سوانح حیات اور اسلام میں ملی خدمات

کا ذکر ہے۔

جبکہ دوسری جلد میں معاندین کی طرف سے آپ پر وارد کردہ تقریباً اکتالیس مطاعن کا مسکت جواب تحریر کیا گیا ہے۔

۹۔ فوائد نافعہ

رجب ۱۴۲۰ھ / اکتوبر ۱۹۹۹ء میں یہ کتاب دو جلدوں میں تالیف کی گئی۔ پہلی جلد میں عام طور پر ”دفاع عن الصحابہؓ“ کا مضمون مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جلد میں حضرات حسنین شریفینؓ کی سوانح حیات کو مرتب کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان حضرات کی شہادتوں کو صحیح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔

رائے گرامی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی دامت برکاتہم عالیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتِمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ

اس پر آشوب دور میں جہاں شعائر اسلام کا استخفاف و استحقار اور امور دین سے اعراض و انکار روزمرہ کے مشاغل بن گئے ہوں اور دین متین داخلی و خارجی فتنوں سے ہمکنار ہو، آئے دن فتنوں کا ایک سیلاب اُمنڈتا چلا آ رہا ہو اور اہل باطل کی ریشہ دو انیاں اور کارستانیاں ”مِنْ كُفْلٍ حَدَّبَ يَنْسَلُونَ“ کی صورت نمودار ہو رہی ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تحریف و انکار کے نشے میں دنیا میں روز افزوں ہوں اور حب اہل بیت کے نام پر صحابہؓ سے نفرت و بیزاری کا بیج بویا جا رہا ہو، حتیٰ کہ اسلام کے نام پر پورا کفر مسط کیا جا رہا ہو۔ ایسی سنگین صورتحال میں معاندین کی یہ روش کتنی دلسوز ہے کہ تربیت یافتگان رسول کو بدقب طعن و تشنیع بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے اور خلفائے ثلاثہ حضرات صدیق و فاروق و غنی رضی اللہ عنہم کی تکفیر و سب و شتم میں طبع آزمائی کر کے دل کی آگ بجھائی جائے۔ گویا نام نہاد مجانب، شجر اسلام کی جز کاٹنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

ع چون کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان

اس کریناک داستان کا آغاز اس تحریک و تحریب سے ہوا جس کے پرچار کنندگان شیعہ اثنا عشری اور روافض کے نام سے مشہور ہیں۔ مگر شیعہ نظریات کے اولین موجد عبد اللہ بن سبأ یہودی اور اس کے رفقاء تھے۔ جنہوں نے یہودیت کی شہ پر اسلامی فتوحات و ترقی کو روکنے اور امت مسلمہ کی وحدانیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے خطرناک چالیں چلیں۔ ابن سبأ نے سب سے پہلے نظریہ امامت ایجاد کر کے اس کا خوب پرچار کیا اور پھر ساتھ ہی اصحاب ثلاثہ کی تکفیر اور ان پر واہگاف الفاظ میں سب و تبرا کرنے کا آغاز کیا جس کا اقرار شیعہ مجتہدین مثلاً ابو عمر اشعری، امام قاسمی اور باقر مجلسی جیسے لوگ بھی اپنی کتب معتبرہ میں کر چکے ہیں۔ بلکہ شیعہ

مجتہدین نے لکھا کہ ”قِمِينْ هُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشَّيْعَةَ أَصْلَ النَّسَبِ وَالرَّفْضَ مَا خُوذَ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ (فرق الشیعہ، ص ۳۰، رجال کش ص ۱۰۸، تنقیح المقال ص ۸۷، بحار الانوار ص ۲۸ ج ۲۵، تفسیر مرآة الانوار ص ۶۲) یعنی یہیں سے وہ لوگ جو شیعہ کے مخالف ہیں یہ کہتے ہیں کہ شیعیت و رافضیت، یہودیت سے ماخوذ ہے“..... نیز مرزا غلام احمد قادیانی و جمال بھی اپنی کتاب میں ایک موقع پر لکھتا ہے کہ

”میرے استاد ایک بزرگ شیعہ تھے اُن کا مقولہ تھا کہ وہاں کا علاج فقط تولد اور تمرا ہے یعنی آئمہ اہل بیت کی محبت کو پرستش کی حد تک پہنچا دینا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے رہنا، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔“ (دافع البلاء ص ۷) اس سے واضح ہوا کہ قادیانیت، شیعیت کی پیداوار ہے۔ جبکہ شیعیت، یہودیت کا چر بہ ہے..... ع

کند ہم جنس با ہم جنس پرداز

بہر حال شیعہ مجتہدین کی صراحت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابن سبأ نے عقیدہ امامت کے ذریعے حب آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر نفاق اور تقیہ کے سیاہ و دبیز پردے میں شیعیت کی بنیاد رکھی۔ اس اسلام دشمن تحریک میں ظاہراً صحابہ گو موردِ طعن بنایا گیا۔ مگر اہل علم سے مخفی نہیں کہ شیعہ امامیہ کو اصلانہ جو کچھ عداوت تھی وہ اسلام، قرآن اور صاحب قرآن سے تھی۔ صحابہ گو موردِ طعن محض اس لئے بنایا گیا کہ قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چشم دید گواہ صحابہ ہی ہیں، جب یعنی گواہ مجروح ہو جائیں گے تو سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اسی لئے امام ابو زرہؒ نے فرمایا: ”إِذَا زَانَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ زَانِدٌ“ (ابو زرہ الرزازی ص ۱۹۹، ص ۲۳۱) جب تم ایسے شخص کو دیکھو کہ جو صحابہؓ کی تنقیص و تردید کرتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے“ پس اسی سبب سے ہم سمجھتے ہیں کہ فتنہ رض کئی وجوہ کی بناء پر عام کھلے کفر و زندقہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ لیکن عوام الناس حب اہل بیت کے خوشناترے سے دھوکے کھا گئے اور اہل تشیع کو مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ تصور کرنے لگے۔ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ شیعوں کی کتب اسلیہ نایاب تھیں اور اُن کے عقائد و نظریات کا کَمَا يَنْبَغِي کسی کو علم نہ ہو۔ کا اور ساتھ ہی شیعیت پر کسمان و تقیہ کی سیاہ چادر تھی رہی، ورنہ شیعہ اثنا عشریہ مذہب نہ صرف بے شمار

ضروریات دین کا منکر و مکذب ہے بلکہ اس کا کلمہ سے لے کر قرآن تک مسلمانوں سے جدا ہے۔ انہیں مسلمان کہنا خود اسلام کی نفی ہے۔ علماء امت ہمیشہ مسلمانوں کو ان کی شقاوت و ضلالت اور کفر و نفاق سے آگاہ کرتے رہے۔ مثلاً علامہ محمد بن ابی بکر العربی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی وغیرم۔ آج سے تقریباً پون صدی قبل استاذی المکرم امام اہلسنت حضرت علامہ مولانا عبدالکفور صاحب لکھنؤی نے اثنا عشریہ کے کفریہ عقائد مثل تحریف قرآن، عقیدہ بداء، عقیدہ امامت، تکفیر صحابہ اور تذیب عائشہ کی بنیاد پر ان کی تکفیر کا فتویٰ جاری کیا۔ جس پر مشائخ دیوبند شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا و مرشدنا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جیسے اساطین علم کے تصدیقی دستخط ثبت ہیں۔..... دیکھئے۔

(ماہنامہ بیات ص ۹۳، ص ۹۴، ص ۱۷۰ تا ص ۱۷۵ کراچی۔ مئی اور اثنا عشریہ کے

بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ)

احقر بھی شیعہ عقائد کی تفصیل اپنی عربی تالیف ”کشف الواعض فی عقیدۃ الردانض“ میں تحریر کر چکا ہے۔ اہل ذوق مراجعت فرمائیں۔ مگر اس کے علاوہ شیعہ سنی کے مابین نزاعی مسائل پر میں خود ایک جامع کتاب کی ضرورت عرصے سے محسوس کر رہا تھا مگر تبلیغی مصروفیت کے ساتھ فرق باطلہ سے مناظروں کی مشغولیت، تدریسی امور اور دیگر وقتی مشاغل نے اس قابل نہ چھوڑا کہ اس حوالے سے کوئی ضخیم کتاب مرتب کر سکوں مگر اس سلسلے میں عالم شبیر، محقق کبیر حضرت مولانا محمد نافع صاحب ادام اللہ تعالیٰ بقاء الخیر، نے ہر عنوان سے الگ الگ ایک جامع کتاب تالیف فرمائی ہے۔ بندہ نے ان کی اکثر کتب مثلاً رجاء ینصم (مکمل)، حدیث ثقلین، بیات اربعہ، سیرۃ حضرت علی المرتضیٰ، سیرۃ امیر معاویہ وغیرہ دیکھیں اور ابھی ان کی نئی تالیف فوائد نافعہ ہر دو جلدوں کو تقریباً اکثر مقامات سے دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ موصوف نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ بحمد اللہ میری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی ہے۔ بلا مبالغہ عرض ہے کہ عدیم الفرصت ہونے کی وجہ سے میں خود ایسی جامع کتب نہ لکھ سکتا۔ مولانا موصوف کی مذکورہ کتب میں درج شدہ دلائل ثبوت، حوالے صحیح اور

مطابقتی ہیں۔ ان کی تحقیق انیق سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ریت کے ذرات سے سونا الگ کرنا جانتے ہیں۔ فاضل محقق نے مقام صحابہؓ اور مقام اہل بیتؑ کی وضاحت کر کے نہ صرف مسلک حقہ کو واضح کیا ہے بلکہ ردائض کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا خواب استیصال کیا ہے۔ مولانا کی تالیفات ردائض خود ساختہ نظریات پر ضرب کاری ہیں۔ رد مطاعن میں اُن کا اندازِ تحریر عالمانہ، محققانہ مگر مصلحانہ ہے۔ یہ کتب عقل سلیم و فہم مستقیم رکھنے والے حضرات کے لئے باعثِ ہدایت اور اہل باطل پر اتمامِ حجت ہیں..... لیہلک من ہلک عن بینة و یحیی من حیة عن بینة.....

احقر اپنے حلقہ کے علماء کرام و طلباء کو مشورہ دیتا ہے کہ مذکورہ کتب سے ضرور استفادہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف کی یہ عظیم کاوش قبول فرمائے اور اسے مسلمانوں کے لئے شمر و نافع بنائے۔

آمین یا رب العالمین

محمد عبدالستار تونسوی عفا اللہ عنہ
رئیس تنظیم اہل السنۃ پاکستان
یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

